

28.12.2017


Appellant in person and Addl: AG alongwith Mr. Safeerullah, S.I and Javed Iqbal, Inspector for respondents present. Arguments could not be heard due to incomplete bench. Adjourned. To come up for arguments on 12.02.2018 before D.B.

  
Member

12.02.2018

Clerk of the counsel for appellant present. Mr. Muhammad Jan, DDA for the respondent present. Counsel for the appellant is not in attendance due to general strike of the bar. To come up for arguments on 16.04.2018 before D.B.

  
Member

  
Chairman


Order

16.04.2018

Counsel for the appellant and Mr. Ziaullah, DDA alongwith Mr. Javed Iqbal, Inspector and Mr. Safeerullah, S.I for respondents present. Arguments heard and record perused.

This appeal is also accepted as per detailed judgment of today placed on file in connected service appeal No. 497/2014 titled "Imran Khan-vs- Additional I.G.P/Commandant, Frontier Reserve Police, Khyber Pakhtunkhwa Peshawar and 2 others". Parties are left to bear their own cost. File be consigned to the record room.

Announced:  
16.04.2018




(AHMAD HASSAN)  
Member


  
(MUHAMMAD AMIN KHAN KUNDI)  
Member


17. 04.07.2017 Counsel for the appellant and Mr. Zia Ullah, Deputy District Attorney alongwith Mr. Safeer Ullah, H.C for the respondent present. Counsel for the appellant requested for adjournment. Adjourned. To come up for arguments on 14.09.2017 before D.B.

  
(Gul Zeb Khan)  
Member


  
(Muhammad Hamid Mughal)  
Member


14.09.2017 Appellant present. Learned Additional Advocate General alongwith Mr. Zafar Ullah, ASI for the respondents present. Appellant seeks adjournment. Adjourned. To come up for arguments on 20.10.2017 before D.B.

  
Member  
(Executive)

  
Member  
(Judicial)

20.10.2017 Counsel for the appellant and Mr. Muhammad Jan, DDA alongwith Mr. Muhammad Iqbal, Inspector and Mr., Safeer ullah, H.C for respondents present. Counsel for the appellant seeks adjournment. Adjourned. To come up for arguments on 28.12.2017 before D.B.

  
Member  
(Executive)

  
Member  
(Judicial)

31.01.2017

Counsel for the appellant and Mr. Ziaullah, GP alongwith Mr. Safeerullah, H.C for respondents present. Learned GP submitted before the court that since the enquiry report is not available on file, hence adjournment be granted to requisition the same. Respondents are directed to produce the entire record on the next date. To come up for arguments on 07.04.2017 before D.B.

  
(ASHFAQUE TAJ)  
MEMBER

  
(MUHAMMAD AAMIR NAZIR)  
MEMBER

07.04.2017

Counsel for the appellant and Addl. AG alongwith Mr. Ihsanullah, H.C for the respondents present. Enquiry report submitted. Learned Addl. AG requested for adjournment to submit enquiry report in identical appeal of Mr. Habibullah. Adjourned for final hearing to 4.7.2017 before the D.B.

  
Member

  
Chairman

25.04.2016

Counsel for the appellant and Ayub Khan, SI legal Lukki Marwat alongwith Mr. Adeel But, GP for official respondents present. The learned Judicial Members is on official tour to D.I. Khan, therefore, case is adjourned to 27.7.2016 before D.B.

  
Chairman

27.07.2016

Junior to counsel(Arbab Saif-ul-Kamal, Advocate) and Mr. Farman Ullah, Inspector alongwith Mr. Ziaullah, GP for respondents present. Junior to counsel for the appellant seeks adjournment as learned senior counsel is indisposed. To come up for arguments on 26.09.2016

  
Member

  
Member

26.09.2016

None present for appellant and Addl. AG for the respondents present. Notice be issued to appellant and his counsel. To come up for arguments on 31.1.2017 before the D.B.

  
Member

  
Chairman

*Arbab*

*Ziaullah*

20.03.2015

Appellant with counsel and Mr. Asmatullah, Head Constable for respondents alongwith Muhammad Jan, G.P present. Requested for adjournment. Adjourned for written reply to 30.6.2015.

  
MEMBER

30.06.2015

Counsel for the appellant and Addl: A.G for respondents present. Written reply not submitted. Requested for adjournment. Last opportunity granted. To come up for written reply/comments on 12.10.2015 before S.B.

  
Chairman

12.10.2015

Counsel for the appellant, M/S Ihsanullah, ASI (legal) and Younas Khan, ASI alongwith Addl: A.G for respondents present. Para-wise comments submitted. The appeal is assigned to D.B for rejoinder and final hearing for 27.01.2016.

  
Chairman

27.1.2016

Counsel for the appellant and Mr. Younas Khan, ASI alongwith Mr. Ziaullah, GP for respondents present. Rejoinder submitted. To come up for arguments on 25.4.2016 before D.B.

  
Member

  
Chairman

Appeal No. 495/2014  
Mr. Abdul Qayyum

3.

02.06.2014


Counsel for the appellant present. Preliminary arguments heard and case file perused. Counsel for the appellant contended that the appellant has not been treated in accordance with law/rule. Against the original order dated 06.01.2014, he filed departmental appeal on 15.01.2014, which has been rejected on 10.02.2014, received to the appellant on 10.04.2014, hence the present appeal on 08.04.2014. He further contended that the impugned order dated 10.02.2014, has been issued in violation of Rule-5 of the Civil Servant (Appeal) Rules 1986. Points raised at the Bar need consideration. The appeal is admitted to regular hearing subject to all legal objections. The appellant is directed to deposit the security amount and process fee within 10 days. Thereafter, Notices be issued to the respondents. To come up for written reply/comments on 19.08.2014.


Appellant Deposited  
Security & Process Fee  
Rs. 1800/- Bank  
Receipt is Attached with File.

  
Member

4.


02.06.2014

This case be put before the Final Bench  for further proceedings.

  
Chairman

19.8.2014

The Hon'ble Bench is on tour to Abbottabad, therefore, case adjourned to 23.12.14

  
Reader

23.12.2014



Ms. Uzma Bibi, Advocate on behalf of counsel for the appellant and Mr. Muhammad Adeel Butt, AAG for the respondents present. The Tribunal is incomplete. To come up for written reply/comments on 20.03.2015.

  
Reader

Form- A  
FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No. 495/2014

S.No.	Date of order Proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
1	08/04/2014	<p>The appeal of Mr. Abdul Qayoum presented today by Mr. Saadullah Khan Marwat Advocate may be entered in the Institution register and put up to the Worthy Chairman for preliminary hearing.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p>
2	15-4-2014	<p>This case is entrusted to Primary Bench for preliminary hearing to be put up there on <u>2-6-2014</u>.</p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>

**BEFORE THE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

S.A. No. 495 /2014

Abdul Qayoum

Versus


Commandant & others

**I N D E X**

S.No	Documents	Annex	P.No.
1.	Memo of Appeal		1-3
2.	FIR, 04.11.2013	"A"	4-5
3.	Charge Sheet, 11.11.2013	"B"	6-7
4.	Reply of Charge Sheet, 11.11.2013	"C"	8-10
5.	Final Show Cause Notice,	"D"	11
6.	Reply to Notice,	"E"	12
5.	Dismissal Order, 06.01.2014	"F"	13-14
6.	Representation, 15.01.2014	"G"	15-17
7.	Rejection Order, 10.02.2014	"H"	18

Appellant

Through



Dated. 8 .04.2014

Saad Ullah Khan Marwat  
Advocate.  
21-A Nasir Mension,  
Shoba Bazar, Peshawar.  
Ph:0300-5872676



**BEFORE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

S.A No. 495 /2014

Abdul Qayoum S/o Babar Khan, R/o  
Gandi Khan Khel, Kotka Muhammad  
Ameen, Sirai Naurang, Lakki Marwat,  
Ex.C. No. 6532, P.S Sirai Naurang, Lakki Marwat . . . . . Appellant  
Versus

1. Additional I.G.P / Commandant,  
Frontier Reserve Police, KP,  
Peshawar.
2. Provincial Police Officer, KP, Peshawar
3. Superintendent of Police, FRP,  
Bannu . . . . . Respondents

**W.P. Peshawar**  
570  
08/07/14

⇔<=>⇔<=>⇔<=>⇔<=>⇔

**APPEAL U/S 4 OF SERVICE TRIBUNAL ACT,**  
**AGAINST ORDER NO. 1145-46**  
**DATED 10.02.2014 OF R.NO.1 WHEREBY**  
**DEPARTMENTAL APPEAL AGAINST OB No. 13,**  
**DATED 06.01.2014 DISMISSING APPELLANT**  
**FROM SERVICE, WAS REJECTED FOR NO**  
**LEGAL REASON.**

⇔<=>⇔<=>⇔<=>⇔<=>⇔

**Respectfully Sheweth;**

1. That appellant was appointed as Constable on 20.08.2009 and since then he was performing his official duties to the best of the ability and to the entire satisfaction of the superiors.
2. That finally appellant was posted at Police Post, Sur Pul, situated in the suburb of Sirai Naurang. On 04.11.2013, 10/12 miscreants attacked the said post at 23:15 hours and indiscriminate / fierce firing took place between the miscreants and police officials. The miscreants decamp away from the spot by taking advantage of the night and bushes. After combat and

**W.P. Peshawar**  
570  
08/07/14

checking the place Sher Nawaz, Constable was lying injured in serious condition. He was rushed to hospital for treatment but there he succumbed to the injuries. (Copy of F.I.R as annex "A")

3. That on 11.11.2013, appellant was served with Charge Sheet and statement of allegation without assigning any specific reason to him. The charge sheet was replied on 11.11.2013. (Copies as annex "B" & "C")
4. That perhaps inquiry in to the matter was initiated by the authority but as is evident from the same, neither any statement of any witness (s) was recorded in presence of appellant nor he was afforded opportunity of cross examination what to speak of providing him opportunity of defence and personal hearing. All such requirements are mandatory in the law.
5. That thereafter, appellant was served with final show cause notice which was replied by denying the allegations. (Copies as annex "D" & "E")
6. That on 06.01.2014, appellant was dismissed from service. (Copy as annex "F")
7. That on 15.01.2014, appellant submitted representation before R. No. 2 which was rejected on 10.02.2014. Copy of the order was dispatched to appellant through postal service which was received by him on 10.04.2014. (Copies as annex "G" & "H")

Hence this appeal, inter alia, on the following grounds:-

**G R O U N D S:**

- a. That it was an admitted fact and also confirmed by the Inquiry Officer that on the eventful night, appellant was on duty at the post.
- b. That legal procedure was not adhered to by the respondents as no regular inquiry was ever conducted nor appellant was afforded opportunity of personal hearing, cross examination, being mandatory.
- c. That the enactment under which appellant was dealt with, was never specified in the charge sheet. Formal inquiry was made

basis for the proceedings which has no legal value in the eyes of law.

- d. That neither any coverdice was ever shown nor appellant was negligent in performance of his official duties. In combat with 10/12 miscreants, loaded with sophisticated weapons, 2 police officials cannot prevent them from terrorist activities.
- e. That from the aforesaid stated legal point when appellant was neither associated with inquiry nor the same was conducted as per the mandate of law nor any statement of any one was recorded nor he was given opportunity of cross examination and self defence, so the impugned orders are then based on malafide and are ab-initio void.

It is, therefore, most humbly prayed that on acceptance of appeal, order dated 10.02.2014 of R.No.1 or order dated 06.01.2014 of R.No.3 be set aside and appellant be reinstated in service with all back benefits, with such other relief as may be deemed proper and just in circumstances of the case.

Dated. 8 .04.2014


Through

عبدالغفور خان

Appellant




Saad Ullah Khan Marwat



Arbab Saiful Kamal

&



Rubina Naz,  
Advocates.



بھی وجود نہ ہے زخمی نائٹل پٹر نو از 6412 کو ہیڈ کم کے خاطر لارنس کی گاڑی /  
میں سے لارنس کی گاڑی نکلنے کے بعد پٹر نو از 6412 کو ہیڈ کم کے خاطر لارنس کی گاڑی /  
گشت نشین و قویم کے اطلاع ملنے پر فوراً جانے و قویم کے طرف لارنس کی گاڑی /  
روڑ پر پٹر نو از نکلنے کے بعد پٹر نو از کے اطلاع ملنے کے موقع پر پٹر نو از کی گاڑی /  
لغت اللہ کی گاڑی اور لارنس کی گاڑی کے درمیان میں لارنس کی گاڑی نے پٹر نو از کی گاڑی /  
کے زبردستی خود روڑ پر دستبرد کی جبکہ پٹر نو از کی گاڑی نے پٹر نو از کی گاڑی /  
میں پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی /  
نہا ماں بھی موقع پر شہداء کے درمیان پٹر نو از کی گاڑی اور اصوات کی گاڑی /  
کے مرنے پر پٹر نو از کی گاڑی میں پٹر نو از کی گاڑی کی گاڑی کا ظاہری زخم /  
کے پٹر نو از کی گاڑی میں پٹر نو از کی گاڑی کی گاڑی کو خود ہی طور پر /  
کے خاطر لارنس کی گاڑی سے پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی /  
Asi کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی اور پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی /  
پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی /  
پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی /  
پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی /  
پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی /  
پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی /  
پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی کے ساتھ پٹر نو از کی گاڑی /

Attest  
05-11-13

Attest  
by

B 6

CHARGE SHEET


**WHEREAS**, I am satisfied that a formal Enquiry as contemplated in the KPK Police Rules 1975 is necessary and expedient.

**AND WHEREAS**, I am of the view that the allegations if established would call for a major penalty as defined in Rules-4 (b) of the aforesaid Rule.

**NOW, THEREFORE**, as required in 6-1 (a) of the aforesaid Rule, I, Bashar Khan, District Police Officer, Lakki Marwat as Competent Authority hereby charge you Const. Abdul Qayyum No. 6532 PP Surkh Puli the allegations are attached with this Charge Sheet.

AND I direct you further under rules 6-F (b) of the aforesaid Rules to put in written defence within 07 days of the receipt of this Charge Sheet as to whether major or minor punishment as defined in Rules 4-1 (a) - (b) should be imposed upon you also state at the same time whether you desire to be heard in person.


In case, your reply is not received within stipulated period without sufficient reason, it would be presumed that you have nothing to say in your defence and the undersigned would be at liberty to take ex-parte action straight away against you.

  
(Bashar Khan)  
District Police Officer,  
Lakki Marwat.

No. 8049-50 / SRC. Dated Lakki Marwat the 4/4 2013.

Copy to :-

1. Mr. Syed Liaqat Shah DSP Naurang, Enquiry Officer for initiating enquiry proceeding against the defaulter police officer/ official under the Rules.
2. Const. Abdul Qayyum No. 6532 PP Surkh Puli is directed to appear before the Enquiry Officer/ Committee on the date, time and place fixed by the Enquiry Officer for the purpose of enquiry proceedings and also to put in a written statement/ defence within a period of 07 days.

  
District Police Officer,  
Lakki Marwat.

7

SUMMARY OF ALLEGATION

On the night between 4/5-11-2013 the terrorists ambushed Police Post Surkh Pull and opened indiscriminate firing upon Constables Sher Nawaz No. 6412 Constable Imran Khan No. 6577, as a result thereof. Constable Sher Nawaz sustained severe injuries and later expired in the Hospital, while Constable Imran Khan No. 6577 became senseless. The accused/ terrorists also took away Govt. Rifles No. 26099229 alongwith fitted magazine containing 30 rounds and KK-Rifle No. 44815 alongwith bandolier containing three (3) magazines loaded 90 rounds of the same bore from the possession of the above noted officials and case FIR No. 592 dated 05.11.2013 u/s 302/324/353/404 PPC/7-ATA PS Naurang was registered.

1. That you being member of Police force of the said Police Post Surkh Pull in spite of repeated directions from the undersigned regarding vigilance and alert in the discharge of duties in the present prevailing Law & Order situation and wave of terrorism, failed to combat the above noted situation and showed great cowardice.
2. That being negligent and casual attitude in performance of your duty badly failed to combat the terrorists who ambushed the Police official who were on Sentary duty, which resulted in the death of constable Sher Nawaz No. 6412 and great loss caused to the Police Department.
3. That the above negligence in the performance of your duty as Police Constable speaks of inefficiency and suggest your unbecoming of good Police Officer and all this amount to gross misconduct on your part and liable to be punished under the Rules-1975.

  
District Police Officer,  
Jakkhi Marwat.



Sir,

IN RESPONSE TO THE CHARGE SHEET  
ISSUED VIDE NO: 8049-50 DATED: 11-11-  
2013.

IT IS SUBMITTED AS BELOW.

1. That I joined the Police Department in the year 2009 and remained posted at various place, performing my duties with great zeal and devotion to the entire satisfaction of my seniors.
2. That I was posted at "Surkh Pool" and for the last 6/7 months performed my duty to the best of my abilities.
3. That on the night of 04-11-2013, I was present in police post Surkh Pool along with incharge Naqib Ullah and the other colleague constable.
4. That constable Imran and "Late" Sher Nawaz were on Sentry duty. While I along with incharge Naqib Ullah and Constable Rafi Ullah were inside the police post when at about 23:00 Hrs heard discriminate firing shoots, we became alert, rushed out and took our arms and ammunitions.
5. That as soon as we came out, we saw that late Sher Nawaz was injured and started firing in retaliation and self defence but it was pitch darkness and abundance of grasses and bushes were present around the



- post, therefore the terrorists accused could not be detected.
6. That I along with constable Rafi Ullah arranged the transport for taking the injured Sher Nawaz to the Hospital and left the only incharge in the police post.
  7. The neither I have ex-passed cowardice nor committed any negligence in performance of my duties because the sentry duty was assigned to constable Sher Nawaz and Imran while we were on the next and remained inside the packet, however when heard the firing immediately came out and starting firing towards the terrorists but they could not detected because of the abundance of grasses around the scene of occurrence which became safe shelter for them.
  8. That after exchange of firing I and Constable Rafi Ullah arranges for vehicle and brought Sher Nawaz to Civil hospital Serai Naurang and then onward proceeded to DHQ Bannu, where he remained I live for about 10-50 mints.
  9. That terrorism has become an open challenge and spreading like a wild fire though out the country, causing human and property losses at the high level but ways could not be sought out to keep pause upon this front.

10. That the police post- packet established at "Surkh Pull" is away from the High Way and situated in an area which is covered with Sugar cane and other crops and as such the terrorists could not be seen at night time unless they reach the target and that is why they succeeded to achieve their goals and escaped.

11. That a criminal case to this effect has also been registered at PS S. Naurang where in it is coming to the surface of investigation, that it was a terrorist attack like other terrorist activities which cannot be controlled being organized and planned crime with high skill with a view to prevail upon the Govt. Keeping in view the prevailing situation of terrorist activities and day to day causalities,

It is requested that I may please be exonerated from the charges and the charge sheet may be filed please.

I wish to appear before your good self for personal hearing.

*sd/*  
Your's Faithfully

F.C Abdul Qayyum Khan No.6532

NB Surkh Pull.

*Abdul*  
*ky*

D U

**FINAL SHOW CAUSE NOTICE**

On the night between 4/5 -11-2013 the militants attacked on police post Surakh pull and made firing upon constables on duty as a result constable Sher Nawaz No. 6412 was injured and expired in the hospital while other constable Imran Khan No. 6577 became senseless. The terrorists also snatched government rifle No. 26099229 and rifle No. 44815 with fitted magazine and rounds from the possession of both the constables. A case FIR No.592 dated 05/11/13 u/s 302/324/353/404 PPC/7ATA has been registered at PS Naurang.

You constable **Abdul Qayum No.6532** were charged for negligent and casual attitude in performance of your duty badly failed to combat the terrorist who ambushed the police officials who were on duty, which resulted in the death of the constable Sher Nawaz No.6412 and great loss caused to the police department in spite of repeated instructions from the senior officers regarding vigilance and alertness in the discharge of duties in the present prevailing wave of terrorism. Furthermore, you showed great cowardice and inefficiency and failed to combat the situation.

The DSP **Syed Liaqat Shah Sarai-e-Naurang** was appointed as inquiry officer and he conducted the inquiry and proved the charges. His findings received in this office was sent to the commandant FRP Headquarter Peshawar for guidance and the same received back in the office for awarding major punishment on the basis of the findings of the inquiry officer.

Therefore, I, **Zarwali Khan SP FRP Range Bannu** direct you through this final show cause notice to put in written statement/defense within seven days of receipt of this notice as to why the major punishment including dismissal should not be imposed upon you and also state at the same time whether you want to be heard in person. If your reply is not received within stipulated period it shall be presumed that you have no defense to offer and ex-parte action will be taken against you.

*Abdul*  
*ky*

*ZK*  
(Zarwali Khan)  
Superintendent of Police  
FRP Range Bannu

Superintendent of Police  
FRP Range Bannu

*[Signature]*

جناب عالی!

بحوالہ مشمولہ فائل شوکا ز معروض ہوں کہ میرا پہلا بیان مفصل ہے، جملہ الزامات میرے خلاف بے بنیاد اور غلط تھی پر مبنی ہیں، میں نے اپنی ڈیوٹی میں کسی قسم کی غفلت اور بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ اچانک رونما ہوا، جیسا کہ دیگر دہشت گردی کے واقعات پہلے اور آئے دن ہوتے رہتے ہیں، اگر یہ دہشت گردی کا واقعہ نہ ہوتا، تو دوران تفتیش دہشت گردی کے دفعہ کا اطلاق نہ کیا جاتا، مزید انکو آفری آفر نے بلا کسی شہادت کے مجھے مورد الزام ٹھہرایا ہے، نہ تو تفتیشی آفر نے سرکل آفر کو میرے خلاف کوئی شہادت دوران تفتیش ملی ہے، جس سے میری بزدلی یا غفلت ثابت ہو سکے۔

محض قیاس پر مجھ پر الزام غفلت اور بزدلی کا لگایا ہے، انکو آفری آفر نے بھی مجھے بلا شہادت غفلت اور بزدلی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔

جن آفران کے بیانات اُس نے قلم بند کئے ہیں، اُن کے بیانات بھی محض خانہ بڑی ہے، کیونکہ بلا شہادت وہ کیونکر مجھے مورد الزام ٹھہراتا ہے جب وہ دوران وقوعہ موجود ہی نہیں تھے، دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں، یا ہوتے رہتے ہیں، وہ ایک منظم منصوبہ بندی پر ہوتے ہیں اور اچانک رونما ہو کر نقصان رسائی کی جاتی ہے۔ اس طرح یہ بھی دہشت گردی کا وقوعہ ہے جس میں میرا کوئی قصور یا غفلت بزدلی نہیں ہے۔

لہذا مجھے الزام سے بری الزمہ قرار دیا جاوے اور شوکا ز نوٹس داخل دفتر فرمائی جاوے۔

الحاضر

اللہ  
بے

عبدالقیوم خان

FC عبدالقیوم خان 6532/spl

ناکہ بندی سوریل۔

E 13

6-1-14

ORDER

On the night between 4/5/ 11-2013 the terrorists ambushed Police Post Surkh Pull and started indiscriminate firing upon on City Constables Sher Nawaz No.6412 and Constable Imran Khan 6577, as a result of which, FC Sher Nawaz was seriously injured while FC Imran Khan became senseless. FC Sher Nawaz No.6412 succumbed to his injuries in the hospital. The militants succeeded also in snatching away Govt Rifle No.26099229 along with fitted magazine containing 30 rounds and K.K Rifle No.44815 along with bandolier consisting of 03 magazines of 90 rounds from the possession of both the aforesaid mentioned constables. SI/SHO Police Station Naurang reached the spot and register case FIR No.592 dated 05-11-2013 u/s 302/324/393/404 PPC read with 7 ATA police station Naruang District Lakki Marwat against the unknown terrorists. The District Police Officer Lakki Marwat suspended SI/PC Naqib Ullah In-charge Police Post Surkh Pull, Constable Imran Khan No.6577, Ismail No.6508, Abdul Qayyum No.6532 and Constable Rafi Ullah No.6407 for badly failing to combat with the accused and showed great cowardice vide order OB No.552 dated 08/11/2013.

The DPO as competent authority Lakki Marwat charged Constable Abdul Qayyum No.6532 for the following misconduct.

1. That you being member of Police Force of the said police post Surkh pull in spite of repeated directions from the undersigned regarding vigilance and alert in the discharge of duties in the present prevailing law and order situation and wave of terrorism.
2. That being negligent and casual attitude in performance of your duty badly failed to combat the terrorists who ambushed the Police officials who were on sentry duty, which resulted in the death of Constable Sher Nawaz No.6412 and great loss caused to the Police Department.
3. That the above negligence in performance of your duty as police Constable speaks of inefficacy and suggest your unbecoming of good police officer and all this amount to gross misconduct on his part and liable to be punished under the Police Rules 1975.

Mr. Syed Liaqat Ali Shah DSP Serai Naruang was appointed as enquiry officer for initiating enquiry proceedings. He conducted the formal enquiry properly and submitted his findings on 28-11-2013 with the conclusion that all the charges /

14

allegations framed on Constable Abdul Qayyum No.6532 stands proved. The same findings along with enquiry papers were received in this office to proceed further under the rules. The same enquiry file was forwarded to Addl: IGP/Commandant FRP K.P.K Peshawar for information and the same departmental enquiry of Constable Abdul Qayyum No.6532 received back vide this office diary No.1826 dated 23-12-2013 for awarding Major punishment on the basis of findings of Enquiry officer.


Final Show Cause Notice of Major Punishment including dismissal was given to Constable Abdul Qayyum No.6532 on 27/12/2013 and similarly the findings of the enquiry officer was also handed over to him. He was asked in the Show Cause Notice to put in his written statement/defense within 07 days of the receipt of Final Show Cause Notice as to why Major Punishment including dismissal could not be imposed upon him and also stating at the same time whether wants to be heard in person or otherwise.


He has replied to the Final Show Cause Notice within stipulated period which was studied and perused at length. He was also personally heard but his explanation to the Final Show Cause Notice and personal hearing was not found convincing and satisfactory. He was recruited as Constable on 20-08-2009.

Therefore, I Zar Wali Khan SP/FRP Bannu as competent authority award him the punishment of Dismissal from service with immediate effect defined in rule 4-B (ii) KPK Police Rules 1975 on the basis of proven charges.


OB No. 13

Dated: 06-01-2014



  
Superintendent of Police  
FRP Bannu

Superintendent of Police  
FRP Bannu



## بعض جناب کمانڈنٹ صاحب FRP خیبر پختونخواہ پشاور

عنوان:- اپیل برخلاف حکم برخاستگی من سائل عبدالقیوم 6532/spl مجاریہ ایس پی FRP ہوں بحوالہ

آرڈرنگ نمبر 13 مورخہ: 06-01-2014

جناب عالی!

یہ کہ من سائل ذیل عرض کرتا ہوں۔

- 1- یہ کہ من سائل سال 2009ء میں محکمہ پولیس FRP میں بحیثیت کنسٹیبل بھرتی ہوا، اور بعد مکمل کرنے ٹریننگ سائل نے واپسی پر ڈیوٹی کرنے کی رپورٹ کی، سائل نے مختلف اوقات کار میں مختلف مقامات پر ڈیوٹی کی، اور سائل نے اپنی ڈیوٹی اس خوش اسلوبی سے سرانجام دیا ہے کہ کسی بھی آفسریا پرائیوٹ لوگوں کو سائل کی ڈیوٹی میں کوئی شکایت نہیں رہی جس کی ثبوت میں سائل کا ریکارڈ موجود ہے
- 2- یہ کہ مقدمہ 592 مورخہ: 05-11-2013 جرم 302/324/353/404/7ATA تھانہ نورنگ کی وقوعہ سے تقریباً 2 ماہ قبل متعین ہوا تھا، اور یہ پولیس چوکی ایک ایسا علاقہ میں قائم کی گئی ہے جن کا تھانہ نہ ملنے سے رابطہ بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور اس پولیس چوکی کی ناگفتہ بہ حالات کے بارے میں وقوعہ کے فوراً بعد زیر بادشاہ انکوآری آفسر کرک نے بحوالہ مد 8 مورخہ: 07-12-2013 روز نامہ FRP نورنگ میں مفصل ذکر کیا ہے، جس کی فوٹو کاپی ہمراہ لف ہے جو کہ من سائل اور دیگر پولیس اہلکاران حصبہ پولیس چوکی ہذا کی بے گناہی اور جرات کا مظاہرہ کرنے کیلئے کافی ہے لیکن جتنے بھی انکوآری آفسران نے وقوعہ ہذا کے بارے میں انکوآریاں کی ہے انہوں نے حقیقت حال کو چھپایا ہے، اگر ان انکوآریوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پولیس اہلکاران کی کوئی بزدلی یا ذرپوئی سامنے نہیں آتی۔

- 3- خالیہ وقت میں تخریب کار ماڈرن اسلحوہ آلات سے لیس ہیں، اور پچھلے 5، 6 سال سے تخریب کاری سارے ملک میں جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور آئے دن سینکڑوں جانی و مالی نقصانات ہو چکے ہیں کیونکہ یہ کاروائی ایک منظم تنظیم کی طرف سے ہو رہی ہے اسلئے حکومت کا اس پر حاوی ہونا بھی مشکل ہے، اس قسم کے واقعات جس میں پولیس کنسٹیبلان کو تارگٹ کیا جا کر قتل کئے گئے ہیں اور اسلحوہ بھی

نیوسبزی منڈی تھانہ منڈان بنوں۔ 2: مقدمہ نمبر 523 جرم 302/404/7ATA/148/149 مورخہ: 08/10/2012 چوکی

نیوسبزی منڈی تھانہ منڈان بنوں، 3: مقدمہ نمبر 407 جرم

302/324/395/404/353/7ATA/34 مورخہ: 22/07/2012 مین گیٹ نمبر 1 DHQ.No. ہسپتال بنوں تھانہ

صدر، جس کا FIR ہمراہ لف ہے لیکن بوجہ تخریب کاری کسی کو سزا نہیں دی گئی ہے۔

4- ایک طرف FRP 4/5 کنسٹیبلان کو مورد الزام بابت بزدلی بھہرائے جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف 10/12 تخریب کاری کی کارروائی

اور وہ بھی شب درمیانی کو نظر انداز کیا جاتا ہے، کیا 3/4 کنسٹیبلان ہمہ وقت چوکی میں چوکس رہینگے یا ان کی صحت کیلئے کچھ نیند کی بھی

ضرورت ہوتی ہے اور شب وقوعہ کے وقت 3 کنسٹیبلان کے غیر محفوظ چوکی کے اندر سوئے ہوئے تھے جبکہ 2 کنسٹیبلان ڈیوٹی پر

نامور تھے، اور ایسے میں اچانک حملے کی صورت میں اوسان خطا ہونے میں کوئی گنجائش نہ تھی لیکن انکو آفر اور SP/FRP نے

ان حقائق کو تسلیم نہ کیا بلکہ قصداً روگردانی کی۔

5- انکو آفر کی آفر کی انکو آفری رپورٹ حقیقت حال سے بالکل برعکس ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے انکو آفری میں حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کیا

ہے اور حقیقت کو چھپایا ہے، مزید جن ہلکاران کا بیان ریکارڈ کئے گئے ہیں ان بیانات کی روشنی میں سائل پر کسی قسم کا الزام ثابت نہیں ہے۔

6- انکو آفری آفر نے Finding بھیجے وقت ریکارڈ پر لائے گئے مواد سے بالکل منہ موڑ کر اپنی طرف سے چارج شیٹ کی تائید میں بغیر

ثبوت کے ایسے الفاظ لکھ دیئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انکو آفری طریقہ کار کے مطابق انکو آفری آفر اس بات کا پابند

ہوتا ہے کہ وہ چارج شیٹ کے الزامات کے ثبوت میں 100% صحیح شہادت ریکارڈ پر لائے گا، بصورت دیگر ہلکار کو الزامات سے بری

قرار دیا اور یہی قانون وقت اور انکو آفری طریقہ کار کا مقصد ہوتا ہے لیکن انکو آفری آفر اور SP/FRP صاحب نے اصل حالات کو

پس پشت رکھ کر کارروائی کی ہے جو انصاف کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔

7- انکو آفری کے طریقہ کار کے مطابق جو آفر چارج شیٹ دے گا اور انکو آفری آفر مقرر کرے گا وہی آفر انکو آفری کی Fiding وصول

کرنے پر مزید کارروائی کرے گا لیکن یہاں پر چارج شیٹ DPO لگی دیتا ہے، انکو آفری آفر مقرر کرتا ہے اور سزا کیلئے

SP/FRP کو کاغذات بھیجے جاتے ہیں، جو قانون کے برخلاف ہے، کیونکہ میرے چارج شیٹ کے جواب دی میں جو نکات اٹھائے



گئے ہیں ان کو قبول کرنے اور رد کرنے کیلئے اس اتھارٹی کو اختیار ہے جو چارج شیٹ دیتا ہے، لیکن ریکارڈ پر ایسی کوئی بات نہیں کہ میرے چارج شیٹ کے جواب کو آفران نے قبول کیا یا رد کیا۔

8- انکوآری آفسر کے Finding بھیجنے کے بعد یہ SP/FRP صاحب پر منحصر تھا کہ وہ انکوآری آفسر Finding کو انکوآری کے مواد

کی روشنی میں پرکھتے اور بعد میں اپنا حکم سناتے ہیں لیکن SP/FRP صاحب کی Finding اور انکوآری آفسر کی Finding کا ملاحظہ کیا جائے تو دونوں میں کافی فرق اور تضاد ہے اور چارج شیٹ کے الزامات سے بالکل مختلف ہیں۔

9- مرہبہ قوانین کے مطابق جب کسی الہکار کو بڑی سزا دینی ہو تو ان کو اپنے دفاع کیلئے مکمل موقع دیا جائے گا لیکن میرے انکوآری میں نہ

انکوآری آفسر نے اور نہ SP/FRP صاحب نے حکم صادر کرتے وقت ان حالات کا باغور جائزہ لیا ہو کہ ریکارڈ پر ایسی شہادت لائی جائے کہ مورد الزام کی گردان میں راسی مکمل طور پر فٹ آجائے لیکن یہاں پر زنجیر کی ایک کڑی بھی ایسی نہیں کہ دوسری کڑی کے ساتھ

باندھا جائے لیکن پھر بھی بلاشور و مواد کے مجھے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ انکوآری آفسر Finding کے مطابق اس نے مراد علی

انسپکٹر، غلام محمد SHO، میراجان OASI، اور گل محمد ریڈر DSP/FRP کے بیانات ریکارڈ کئے ہیں لیکن انہی بیانات کو انہوں نے تسلیم نہیں کئے ہیں، پھر بھی مجھے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔

10- سائل ایک غریب آدمی اور خاندان کا واحد خود کفیل ہے اس مہنگائی کے دور میں بمشکل سے اپنی تنخواہ سے اپنی اور خاندانی ضروریات پوری

کرتے تھے۔ مگر سائل کو نہ کردہ گناہ پر بغیر کسی شہادت کے نوکری سے برخاست کیا گیا، جو کہ سراسر ظلم اور نا انصافی ہے۔

لہذا استدعا ہے کہ درج بالا حقائق کی روشنی میں حکم SP/FRP صاحب بنوں آرڈرنگ نمبر 13 مورخہ: 06/01/2014 کو منسوخ

کر کے سائل کو نوکری پر بحال کیا جا کر سائل پر رحم کیا جاوے۔ سائل اور اس کا خاندان ساری عمر دعائیں دینگے۔

نوٹ:- سائل جناب کے روبرو خود پیش ہونا چاہتا ہے تاکہ حقائق مزید زبانی واضح طور پر بیان کر سکے لہذا پیشی کی اجازت دی جاوے۔

مورخہ: 15/01/2014

العارض

استدعا  
by

سائل ایکس کنٹریبل عبدالقیوم 6532/spl ایف آر پی بنوں ریجن بنوں۔

H

18

10-2-14

ORDER.

This order shall dispose off on the appeal of Ex-Constable Abdul Qayyum No. 6532 of FRP Bannu Range against the order of SP FRP Bannu Range.

Brief facts of the case are that on 4/5 11-2013 the Terrorists ambushed Police Post Surkh Pull, started indiscriminate firing upon on duty Constables Sher Nawaz No. 6412, Imran Khan No. 6577, as a result of which FC Sher Nawaz was seriously injured while FC Imran Khan became senseless. FC Sher Nawaz No. 6412 succumbed to his injuries in the Hospital. The militants succeeded also in snatching away Govt. Rifle No. 26099229 along with fitted magazine containing 30 rounds and KK Rifle No. 44815 along with bandolier consisting of 03 magazines of 90 rounds from the possession of both the aforesaid mentioned. SI/SHO Ps: Naurang reached the spot and register case FIR No. 592 dated 05.11.2013 u/s 302/324/393/404 PPC read with 7 ATA Police station Naurang District Lakki against the un-known terrorist. He failed to combat with accused and showed great cowardice. The DPO charged him as under:-

1. That being a member of Police Force, in spite of repeated directions regarding vigilance and alert while discharge of duties in the present prevailing law and order situation and wave of terrorism.
2. That being negligence and casual attitude in performance of duty badly failed to combat the terrorist who ambushed the Police officials who were on sentry duty, which resulted the death of constable Sher Nawaz 6412 and great loss caused to the Police Department.
3. That the above negligence in performance of duty as Police constable speaks of in efficiency seems his un-becoming of a good Police Officer and this amount to gross misconduct on part of the above named ex-constable liable to be punished under the Police Rules 1975.

In this connection Mr. Syed Liaqat Ali Shah DSP Serai Naruang was appointed as Enquiry officer. After enquiry he recommend the defaulter ex-constable for Major Punishment. He was issued Final Show Cause Notice and also heard in person, but neither explanation nor personal hearing were found convincible and satisfactory, therefore he was dismissed from service under Police Rules 1975 by SP FRP Bannu Range vide his OB No. 13 dated 06.01.2014.

However from the perusal of record and recommendation of Enquiry officer there are no cogent reason to interfere in the order of SP FRP Bannu Range. **Therefore his appeal is rejected.**

*Attor*  
*ky*

M  
Addl: IG/Commandant  
Frontier Reserve Police  
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar

No. 1145-46 /EC dated Peshawar

7-2-2014

Copy of above is sent to the Superintendent of Police FRP Bannu Range Bannu for information and necessary action w/r to his Memo: No. 331 dated 28.01.2014. His Service record and departmental Enquiry file are returned herewith.

1. Ex. Co. Abdul Qayyum, S/O Barber Khan R/O Muhammad Amin P.S. Naurang Dist. Lakki

پندرہ الٹ چناب سروس ٹریڈ ہونٹل صوبہ سرحد پشاور

مخانب اسلٹ

عہدہ التعمیر خان بنام گرانڈ ٹرنٹ وینڈ

دعویٰ اس

### باعث شکریہ ایٹکہ

مقررہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی وکیل کاروائی متعلقہ آلہ مقام پشاور کیسٹل سید امان خان فرزند ایڈووکیٹ ہائی کورٹ کو وکیل مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کابل اختیار ہوگا نیز وکیل صاحب کو کرنے رضی نامہ و تقرر ثالث و فیصلہ برحلاف دینے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور بصورت ڈگری کرنے اجراء اور وصولی چیک و روپیہ اور عرضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق اور اس پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری بکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور مستحق بنیاد کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکور کے کل یا جزوی کاروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنی بجائے تقرر کا اختیار ہوگا اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ بالا اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پرواختہ منظور قبول ہوگا و دوران مقدمہ میں جو خرچہ و ہرجانہ التوا مقدمہ کے سبب سے ہوگا اس کے مستحق وکیل صاحب موصوف ہوں گے نیز بقایا و خرچہ کی وصولی کرنے کا بھی اختیار ہوگا اگر کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند نہ ہوں گے کہ پیروی مذکور کریں۔

لہذا وکالت نامہ رکھ دیا کہ سند ہے۔

المترجم

العبد

العبد

العبد

ارباب سید انکال  
ایڈووکیٹ

سید اللہ خان مروت  
ایڈووکیٹ

عہدہ التعمیر خان

میں روپیہ تازہ  
ایڈووکیٹ

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER PAKHTUN KHWA PESHAWAR

APPEAL NO. 495/2014.

Abdul Qayoum s/o Babar Khan, R/o,  
Gandi Khan Khel, Kotka Muhammad  
Ameen, Serai Naurang Lakki Marwat.  
Ex-Constable No. 6532, P.S Serai Naurang, Lakki Marwat.

(APPELLANT)

VERSUS

1. Addl: I.G.P / Commandant Frontier Reserve Police,  
Khyber PakhtunKhw Peshawar.
2. Provincial Police Officer, KPK, Peshawar.
3. Superintendent of Police FRP Bannu Range Bannu.

(RESPONDENTS)

Respectfully sheweth

Para wise Comments on behalf of the respondents:-

Preliminary Objections

- 1) That this appeal is badly time barred.
- 2) That the appellant has got no cause of action.
- 3) That the appeal is also bad due to non joinder of necessary parties.
- 4) That the appellant has approached, to the honorable Service Tribunal, with unclean hands.

OBJECTIONS ON FACTS:-

- 1) First Para is correct to the extent that the appellant was inducted in the Police Department on 20-08-2009 but the later improvement is clear from the Service Record of the appellant, what to talk about his tall claims regarding devotion and abilities towards his service, thus this Para has got no force.
- 2) Correct to the extent that appellant was posted at Police Post Sur Pul, situated in the suburb of Serai Naurang, however, as per report of RPEO dated 06-11-2013, approximately one or two terrorists ambushed the Police Post Surkh Pulp and being negligent and casual attitude in performance of duty, appellant badly failed to combat the terrorists who ambushed the Police officials who were on sentry duty, which resulted in the death of Constable Sher Nawaz No.6412 and great loss caused to the Police Department. (Copy of RPEO report as annex "A")
- 3) Correct to the extent that appellant was served with charge sheet on 11-11-2013. In fact, after the commission of offence, the terrorists took away Govt: Rifle

No.26099229 along with fitted magazine containing 30 rounds and K. K-Rifle No.44815 along with bandolier containing 03 magazines loaded 90 rounds of the same bore from the possession of the appellant and others, as a result of which appellant was placed under suspension due to badly fail to compete with the accused terrorists and showed a great cowardice act on his part vide DPO Lakki Marwat office OB No.552 on 08-11-2013 & copy of the same to SP/FRP Bannu for information over Endst: No.8055-58 dated 11-11-2013. (Copy of suspension order as annex "B")

- 4) Incorrect: Appellant was afforded full opportunity of self-defense as well cross examination, but he was willfully not interested to make cross examination on the witness, as evident from the short written statement of the appellant bearing his signature and NIC number, placed on enquiry file. Similarly full fledge inquiry was conducted by the Enquiry Officer DSP Syed Liaqat Ali Shah under the supervision / close watch of District Police Officer Lakki Marwat and submitted his findings cated 28-11-2013 with the conclusion that all the charges / allegations framed on the appellant stands proved.
- 5) Pertains to record.
- 6) Correct after conducting a discreet inquiry regarding the allegations and observing all legal/codal formalities, the appellant was dismissed from service on 06-01-2014.
- 7) Correct: After dismissal from service appellant approached to the high ups and submitted appeal / representation for re-instatement in service before the Honorable Commandant FRP Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar, which was perused at length by the high ups, finally the same appeal was rejected with the remarks which are reproduced below. (copy of rejection order as annex "C")

**"However from the perusal of record and recommendation of enquiry officer there are no cogent reasons to interfere in the order of SP/FRP Bannu Range, therefore his appeal is rejected".**

#### **OBJECTION OVER GROUNDS**


- a) Correct: In the appeal appellant admitted that on the eventful night, he was on duty, but in his reply to the charge sheet he acknowledged that he along with in-charge Naqib Ullah and Constable Rafi Ullah were inside the police post at the time of attack of terrorists. However on the eventful night Appellant showed high negligence and cowardice act in performance of duty badly failed to combat the


terrorists who ambushed the Police officials who were on sentry duty, which caused great loss to the Police Department. (copy of reply as annex "D")


- b) Incorrect, discreet enquiry was conducted with the conclusion that all the charges / allegations framed on the appellant stands proved. The appellant was properly charge sheeted, based upon summary of allegation & Enquiry Officer was nominated to make proper probe. After observing all legal / codal formalities, personal hearing the appellant was dismissed from Service which is according to the rules and regulations. Besides that appellant was afforded full opportunity of self-defense as well cross examination, but as early stated he was willfully not interested to put cross examination on the witnesses. (Copy of statement as Annex "E")
- c) Incorrect, The appellant was charged for his mis-conduct in the light of Police Rules 1975, as such on the eventful night appellant was on duty and in-spite of repeated directions from the superiors circulated time and again regarding vigilance / cautions and alert in the discharge of duties, but on the spot of occurrence appellant showed great cowardice act & badly failed to combat the miscreants who ambushed the police officials who were on sentry duty which caused great loss to the Police Department. Similarly the above high negligence in performance of duty as Police Force member speaks of in efficiency and unbecoming of good Police officer and after observing all legal / codal formalities, personal hearing he was accordingly dismissed from service vide OB No.13 on 06-01-2014.
- d) Incorrect. Appellant showed great negligence and cowardice act badly failed to combat the terrorists who ambushed the police post. Besides terrorists easily escaped from the spot, also snatched away 02 Govt: Rifles along with ammunition and bandolier as stated in early para. As per report of RPEO dated 06-11-2013, approximately (one) or (two) terrorists ambushed the Police Post Surkh Pul and being negligent and casual attitude in performance of duty, appellant badly failed to combat the terrorists who ambushed the Police officials who were on sentry duty, which resulted in the death of Constable Sher Nawaz No.6412 and great loss caused to the Police Department.
- e) In Correct, in fact the appellant was afforded full opportunity of self-defense, personal hearing as well cross examination, but he was willfully not interested to put cross examination on the witness. Enquiry officer recorded the statement of all relevant Police Officers and after fulfilling all legal formalities came to conclusion that the allegation leveled against the appellant stands proved, thus dismissal order vide OB No. 13 dated 06-01-2014 passed by the competent authority.

**PRAYER**

In the light of above said facts it is humbly prayed that the appeal being with short of legal weight age, may kindly be rejected/dismissed with costs please.

  
1. Commandant FRP Khyber  
Pakhtunkhwa, Peshawar

  
2. Provincial Police Officer,  
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

  
3. Superintendent of Police,  
FRP, Bannu.






(1)

(A)


پرائیویٹ ریلوے

جناب عالی!

بجوالہ مقدمہ عدالت نمبر 594 تاریخ 11/4/2013 جرم 302-324-353 PPC  
 TATA تھانہ ٹورنگ معروض خدمت ہوں کہ جانے وقوعہ کا تفصیلی  
 جائزہ لیا۔ بدوران معائنہ ایک عدد سکہ جلدہ خون آلود مل کر حوالہ 1:0  
 کیا گیا۔ جانے وقوعہ اور جانے وقوعہ کے آس پاس محل وقوع سے تصاویر  
 بھی لیے جو کہ پرائیویٹ ریلوے کے ہمراہ لف ہیں۔ گارڈ کمانڈر، کانسٹیبلان  
 کے بیانات بھی لیے گئے۔ نقشہ موقع بغرض ملاحظہ پیش خدمت ہے۔




کیمرہ ٹرک روزہ مارتنی خان



← کیمرہ ٹرک روزہ سیرکی

→ تختہ ٹرک روزہ مسلم باغ



کیمرہ بے گارڈ کانسٹیبلان استعمال رہے ہیں

کیمرہ بے گارڈ کانسٹیبلان

- D.P.P. Lakho:
- Placed in entire strength of P.P. Surpl and proceed against them departmentally.
  - Issue charge sheet against SHO Naurang for weak supervision.
  - Report action with in due course of time

برقت وقوعہ عمران نامی کانسٹیبل شہید کانسٹیبل شہید نواز خان کیساتھ ڈیوٹی پر موجود تھا  
 جانے وقوعہ کے چاروں اطراف کھلا علاقہ ہے۔ جس وقت ہم جانے وقوعہ پر  
 پہنچے اس وقت عمران کانسٹیبل بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال میں زیر  
 علاج تھلا گیا۔

P.T.O

Handwritten signature and date:  
 019/13  
 07/14



گارد کمانڈر چوکی سوریل Si نقیب اللہ کا بیان لیا جس نے اپنے بیان میں FIR کی رپورٹ کی تائید کی۔ ملزمان کے بارے میں اُسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اور رات کی تاریکی کو جواز بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ سنسٹری پویش اور گارد کمانڈر اور گارد کے کمرے کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ ہے۔ اگر فائرنگ کے ساتھ وہ الٹ ہو جاتے تو نتیجہ مختلف ہوتا۔ کانسٹیبلان کے بیانات بھی لئے گئے جنہوں نے گارد کمانڈر کے بیان کی تائید کی۔ ان کے بیانات یہ بھی معلوم ہوا کہ کانسٹیبلان میں سے حبیب اللہ 630 اور رفیع اللہ 6407 جو کہ مسجد (عربی سائڈ) کے ساتھ ملحقہ کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ اگر وہ بروقت الٹ ہوتے اور ملزمان کے تعاقب کیلئے نکل آتے۔ تو ایسی صورت میں بھی ملزمان کو اس طرح آسانی سے فرار ہونا اور سرکاری کلاسٹکوف لیجانا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن سب سے بڑی کمی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ گارد کمانڈر اور کانسٹیبلان کے بیانات ہمراہ لف برائے ملاحظہ ہیں۔

جب گارد کمانڈر سے پتہ براری کی گئی۔ کہ کانسٹیبل عمران جو کہ بوقت وقوعہ بھاگ گیا تھا۔ اُس کا آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ وہ کدھر ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ اُس کی چادر کافی دور جانب شمال خالی اراضیات میں ملی۔ اور وہ مکانِ مسیحی نثار ولد بیس خان سکھ نثار سلطان محمود میں پناہ لے چکا تھا۔ مسیحی نثار نے بعد ازاں ہمیں مطلع کر دیا۔ کہ اسے کہیں اور نہ ڈھونڈیں۔

بہر چوکی سوریل گارد کمرہ جات کے شمال شرقی سائڈ پر بالکل ملحقہ ایک ٹھکانہ خست ہے جس کے مزدوران سے دریافت کی دریافت پر معلوم ہوا کہ رات کو غلام فرید ولد لعل بدن شاہ سکھ مصوری ہمیں ڈاکخانہ والی جمہ حسن تحصیل و ضلع ہرن اور بیرون ولد اطلس خان سکھ سوریل علاقہ تھانہ فوژنگ کی ٹھکانہ خست میں آگ ڈالنے کی ڈیوٹی تھی۔ دونوں مزدوران سے تفصیلی بیانات لئے جو کہ ہمراہ لف قابل ملاحظہ ہیں۔ ہر دو مزدوران نے اپنے بیانات میں بتلایا کہ ایک ڈیسر (ٹرک نما) گاڑی جو اینٹوں سے لوڈ شدہ تھی جانب شمال روڈ سے آئی اور چوکی کے ساتھ موڑ کاٹتے فائرنگ یعنی برسٹ ہوئی۔ برسٹ کے بعد دو یا تین سنگل فائرز بھی ہوئے۔ ہم ڈر کے مارے ٹھکانہ خست میں پناہ لی۔ اُس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ بھی رکا۔ اور وقوعہ کے بارے میں باقی پولیس والوں کے زبانی معلوم ہوا۔

اس کے بعد سار ولد میاں خان سکند نادر سلطان محمود حسن کے ہاں کانسٹبل عمران  
بھاگ کر بناہ لی تھی، کابھی تفصیلی بیان لیا۔ جس نے اپنے بیان میں بتلایا کہ کل  
میں گھوس میں موجود تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر معلوم ہوا کہ  
عمران نامی کانسٹبل ہے اور وہ کچھ لوگوں کے قابل نہیں تھا۔ مزید جب اسلحہ کے  
بارے میں دریافت کیا گیا کہ اس کے پاس کلاشنکوف سرکاری موجود تھا یا نہیں؟  
تو اس نے بتایا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ سار کے بھائی عبدالصمد سے بھی تفصیلی  
بیان لیا۔ جو کہ ہمراہ لف قابل ملاحظہ ہے۔

اس کے بعد وقت وقوع کو مد نظر رکھتے ہوئے جانب شمال روڈ پر حملہ بمبھہ خشت  
سے دریافت شروع کی۔ دریافت پر معلوم ہوا کہ سہم بمبھہ خشت واقع شاخ  
تلی خان موڑ سے ڈسٹرکٹ (ٹرک) لوڈ شدہ بائیکول ڈرائیور مقدر شاہ سکند نامعلوم  
مربائل نمبر 0300-566484، 566484-0331 وقوع سے کچھ لمحات قبل  
بطرف مسلم باغ نکلی ہے۔ ڈرائیور مذکورہ سے جب مربائل پر وقوع کے بارے  
میں دریافت کی۔ تو اس نے بتایا کہ وہ شمال کی طرف سے جوگی کیسا تھو موڑ کا  
بطرف مشرق روڈ جو نہیں چند گز کے فاصلے پر آئے گیا۔ تو میں نے فائرنگ کی  
آواز سنی۔ اور جس وقت میں موڑ کاٹ رہا تھا تو ستری بوٹ کے بستے ٹھیک  
کر رہا تھا جبکہ دروازہ ستری پوش سے باہر کھڑا تھا۔ اس نے مزید  
یہ بھی فون پر بتلایا کہ پولس جب بھی مجھے بیان یا کسی قسم کی تعاون کیلئے  
طلب کرنا چاہے تو میں حاضر آنا ہوں گا۔

اس کے بعد عمران کانسٹبل کے گھر لگے جواب ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکا تھا۔  
اس نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ گاڑی آئی اور میں ستری پوش کیسا منے کھڑا تھا۔ کہ  
کافی تعداد مسلح نصاب پوش تھے غزلی سائڈ سے آجائیک ہم پر دھاوا بول کر  
مجھے دھکا دیا۔ اور فائرنگ بھی ہوئی۔ میں بھاگ گیا۔ مجھے سرکاری رائل  
کابھی کچھ تپہ نہیں چلا اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میں کس طرح اور کہاں  
تک بھاگ گیا ہوں۔ میں اب ہر تھی ہو چکا تھا۔ ہسپتال میں ہرش آیا۔  
مزید یہ بھی کہا کہ میں میری (ڈرائیور کے کامریض ہوں)۔

شہد کانٹیل اور کانٹیل عمران کے موبائل فون قبضہ میں لیکر حوالہ 1:5 عنایت البدیع  
 تھانہ نورنگ کے گز اور اسے ہدایت دی کہ دونوں موبائل فون عنایت کا متعلقہ  
 حکام سے تفصیلی ڈیٹا حاصل کریں۔

عالمیہ! میرے والدین کے مطابق حملہ گاردمعہ گارڈ کمانڈر نے اُس وقت تک  
 چوکی سے باہر نکلے ہی نہیں جب تک کل خاموشی چھا گئی ہے۔ تو وہ گارڈ کمرہ  
 حات سے باہر نکلے اس جو کہ سنگین بزدلی ہے۔ کانٹیل عمران جو کہ  
 شہد کانٹیل کیساتھ ڈیوٹی پر موجود تھا۔ وقوعہ کا چشم دید گواہ ہے لیکن  
 حان تو جو کہ نفسی ٹیم سے تعاون میں کرتا۔ اُسے وقوعہ کا مکمل علم ہے۔  
 میری کہہ مانے کے مطابق وقوعہ ایک ماڈرن ملزمان نے کیا ہے۔ اگر دلشست  
 گرد تنظیم ہوتی تو میرے خیال میں گارڈ کمرہ حات میں سوتے سوتے ملازمین  
 کو بھی آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے۔ اگر کانٹیل عمران کو صحیح انٹروگنیٹ  
 کیا جائے تو میرے خیال میں ملزم / ملزمان تک بڑی آسانی سے چھپا  
 بیچ سکتے ہیں۔

مزید یہ بھی آپ صاحبان کو اس میں لانا چاہتا ہوں کہ گارڈ کمرہ حات کی کیا گیا۔  
 معلوم ہوا کہ کمرہ حات (مورخہ 2012-7-20) سے تاحال گارڈ / ملازمین کو حملہ  
 سپروائزر کی آفیسر نے صرف دو مرتبہ چمک کئے ہیں۔ کمرہ کے مطابق  
 مورخہ 2013-6-01 کو لائن آفیسر اور مورخہ 9-13-7 کو SHO نورنگ  
 نے چوکی گارڈ حات کر کے ملازمین کو چوکی سوریل کو ضروری ہدایات  
 دئے ہیں۔ باقی کسی نے بھی چوکی کی طرف آنے کی زحمت گوارا نہیں  
 کی ہے۔ جو کہ غفلت اور لاپرواہی ہے۔

سینئر پولیس غیر محفوظ اور نو سہہ کا کافی دور سے بھی اس کو بڑی  
 آسانی سے نشانہ بنایا جاسکتا ہے۔ رہائشی کمرہ حات بھی غیر محفوظ ہیں۔  
 اور خستہ حال ہیں۔ آئندہ کسی نقصان سے بچنے کی خاطر اس کی مناسب  
 تعمیر اہمیت از حد ضروری ہے۔ جبکہ حالات کے پیش نظر نوری  
 کی تعداد کم ہے۔ مزید اگر بڑھائی جاوے تو کارسز کار کئے سو  
 مذکورہ گا۔

مزدیہ کہ چوکی سوریل میں کل آٹھ ٹلٹ بیروں جب تک پڑے تھے۔ نوبت  
 وقوع ستریاں نے کچھ قسم کا ٹلٹ بیروں جب تک میں کہنے تھے۔ اور  
 نہ ہی اس بابت گارد کمانڈر نے اپنے فرائض انجام دئے ہیں۔ گارد کمانڈر  
 بشمول دیگر گارد کانسٹبلان نزدلی، لاہروا ہی اور فرائض سے غفلت کی  
 بنا دس مرتبہ کارروائی کی استدعا کی تھی۔ ۰:۱۰ نے بھی اپنے فرائض  
 صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ کیونکہ نہ اس نے  
 موبائل فون قرضہ میں لئے تھے۔ نہ ہی موقع کیساتھ نزدیک حصہ خست  
 کے ملازمین سے اور جہاں سے عمران کانسٹبل برآمد ہوئے۔ اس  
 مالک مکان سے بھی بیانات طلب کئے ہیں۔ گارد کانسٹبلان  
 گارد کمانڈر کے بیانات مفروضہ اور اپنی نا اہلی کو قصبانے  
 کیلئے مقدمہ کو غلط رخ دینا چاہتے ہیں۔

اصل سلیزم تک سننے کیلئے کانسٹبل عمران اور ڈسٹرکٹ ایئر  
 مقدمہ شاہ سکینہ نامعلوم نمبر ۰۳۳۱-۵۶۶۴۴۸۴ -  
 ۰۳۰۰۵۶۶۴۴۸۴ د ۰۳۳۱-۵۶۶۴۴۸۴ سے کونٹاک کیا جانا از حد ضروری  
 ہے لہذا اس بابت ڈی پی او بکروت اور SP الوشکیشن بکروت  
 کو مناسب ہدایات دی جاویں۔

رپورٹ مرتب ہو کر گزارش ہے

\_\_\_\_\_

RPEO

6.11.2013

Attested

\_\_\_\_\_

17/11/2013

(B)

ORDER.

On the night between 4/5-11-2013 the terrorists ambushed Police Post Surkh Pull and opened indiscriminate firing upon Constables Sher Nawaz No. 6412 Constable Imran Khan No. 6577. as a result thereof. Constable Sher Nawaz sustained severe injuries and later expired in the Hospital, while Constable Imran Khan No. 6577 became senseless. The accused/ terrorists also took away Govt: Rifles No. 26099229 alongwith fitted magazine containing 30 rounds and KK-Rifle No. 44815 alongwith bandolier containing three (3) magazines loaded 90 rounds of the same bore from the possession of the above noted officials and case FIR No. 592 dated 05.11.2013 u/s 302/324/353/404 PPC/7-AFA PS Naurang was registered. The Incharge Police Post Surkh Pull and the strength deployed over there badly failed to combat with the accused/ terrorists and displayed and showed great cowardice on their part. hence forth, the following police officials are hereby suspended with immediate effect:-

1. SI/PC Naqibullah FRP.
2. Const: Imran Khan No. 6577/FRP.
3. Const: Abdul Qayyum No. 6532/FRP.
4. Const: Rafiullah No. 6493/FRP.
5. Const: Mohammad Ismail No. 6508/FRP.
6. Const: Habibullah No. 630.

1557  
11-11-13

OB No. 5521

Dated. 08/11/2013.

District Police Officer,  
Lakki Marwat.

No. 8055-58 Dated Lakki Marwat 11/11 /2013.

Copy to:-

1. SP/ FRP Bannu Range for information.
2. OHC/PO and SRC for necessary action.

100 2635  
211 8-11-013

District Police Officer,  
Lakki Marwat.

SRC/PO

SP  
Superintendent Of Police  
FRP/Bannu

(C)  
H  
18  
ORDER.

10-2-14

This order shall dispose off on the appeal of Ex-Constable Abdul Qayyum No. 6532 of FRP Bannu Range against the order of SP FRP Bannu Range.

Brief facts of the case are that on 4/5 11-2013 the Terrorists ambushed Police Post Surkh Pull ; started indiscriminate firing upon on duty Constables Sher Nawaz No. 6412, Imran Khan No. 6577 as a result of which FC Sher Nawaz was seriously injured while FC Imran Khan became senseless. FC Sher Nawaz No. 6412 succumbed to his injuries in the Hospital. The militants succeeded also in snatching away Govt Rifle No. 26099229 alongwith fitted magazine containing 30 rounds and KK Rifle No. 44815 along with bandolier consisting of 03 magazines of 90 rounds from the possession of both the aforesaid mentioned. SI/SHO Ps: Naurang reached the spot and register case FIR No. 592 dated 05.11.2013 u/s 302/324/393/404 PPC read with 7 ATA Police station Naurang District Lakki against the un-known terrorist. He failed to combat with accused and showed great cowardice. The DPO charged him as under:-

1. That being a member of Police Force, in spite of repeated directions regarding vigilance and alert while discharge of duties in the present prevailing law and order situation and wave of terrorism.
2. That being negligence and casual attitude in performance of duty badly failed to combat the terrorist who ambushed the Police officials who were on sentry duty, which resulted the death of constable Sher Nawaz 6412 and great loss caused to the Police Department.
3. That the above negligence in performance of duty as Police constable speaks of in efficiency seems his un-becoming of a good Police Officer and this amount to gross misconduct on part of the above named ex-constable liable to be punished under the Police Rules 1975.

In this connection Mr. Syed Liaqat Ali Shah DSP Serai Naurang was appointed as Enquiry officer. After enquiry he recommend the defaulter ex-constable for Major Punishment. He was issued Final Show Cause Notice and also heard in person, but neither explanation nor personal hearing were found convincible and satisfactory, therefore he was dismissed from service under Police Rules 1975 by SP FRP Bannu Range vide his OB No. 13 dated 06.01.2014.

However from the perusal of record and recommendation of Enquiry officer there are no cogent reason to interfere in the order of SP FRP Bannu Range. **Therefore his appeal is rejected.**

My  
Addl: IGPI/Commandant  
Frontier Reserve Police  
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar

No. 1145-46 /EC dated Peshawar 10/2/2014.

Copy of above is sent to the Superintendent of Police FRP Bannu Range Bannu for information and necessary action w/r to his Memo No. 331 dated 28.01.2014. His Service record and departmental Enquiry file are returned herewith.

(D)

Sir,

**IN RESPONSE TO THE CHARGE SHEET  
ISSUED VIDE NO: 8049-50 DATED: 11-11-  
2013.**

**IT IS SUBMITTED AS BELOW.**

1. That I joined the Police Department in the year 2009 and remained posted at various place, performing my duties with great zeal and devotion to the entire satisfaction of my seniors.
2. That I was posted at "Surkh Pool" and for the last 6/7 months performed my duty to the best of my abilities.
3. That on the night of 04-11-2013, I was present in police post Surkh Pool along with incharge Naqib Ullah and the other colleague constable.
4. That constable Imran and "Late" Sher Nawaz were on Sentry duty. While I along with incharge Naqib Ullah and Constable Rafi Ullah were inside the police post when at about 23:00 Hrs heard discriminate firing shoots, we became alert, rushed out and took our arms and ammunitions.
5. That as soon as we came out, we saw that late Sher Nawaz was injured and started firing in retaliation and self defence but it was pitch darkness and abundance of grasses and bushes were present around the

post, therefore the terrorists accused could not be detected.

- 6. That I along with constable Rafi Ullah arranged the transport for taking the injured Sher Nawaz to the Hospital and left the only incharge in the police post.
- 7. The neither I have ex-passed cowardice nor committed any negligence in performance of my duties because the sentry duty was assigned to contrastable Sher Nawaz and Imran while we were on the next and remained inside the packet, however when heard the firing immediately came out and starting firing towards the terrorists but they could not detected because of the abundance of grasses around the scene of occurrence which became safe shelter for them.
- 8. That after exchange of firing I and Constable Rafi Ullah arranges for vehicle and brought Sher Nawaz to Civil hospital Serai Naurang and then onward proceeded to DHQ Bannu, where he remained I live for about 10-50 mints.
- 9. That terrorism has become an open challenge and spreading like a wild fire though out the country, causing human and property losses at the high level but ways could not be sought out to keep pause upon this front.



10. That the police post- packet established at "Surkh Pull" is away from the High Way and situated in an area which is covered with Sugar cane and other crops and as such the terrorists could not be seen at night time unless they reach the target and that is why they succeeded to achieve their goals and escaped.

11. That a criminal case to this effect has also been registered at PS S. Naurang where in it is coming to the surface of investigation, that it was a terrorist attack like other terrorist activities which cannot be controlled being organized and planned crime with high skill with a view to prevail upon the Govt. Keeping in view the prevailing situation of terrorist activities and day to day causalities,

It is requested that I may please be exonerated from the charges and the charge sheet may be filed please.

I wish to appear before your good self for personal hearing.

Your's Faithfully  
F.C Abdul Qayyum Khan No.6532

NB Surkh Pull.

Attested  
SDO Naurang  
20/11/2013

بیان اذکار (E) سید امیر سراج نورانی

تے بیان کیا کہ عندم محمد جان 540 نورانی کے فریجی حراسہ میں

مقدم 592 تاریخ 11/7/53 302-324-353 کے مکان نورانی کو 2/11/53  
404.7A.A

جو کہ یہاں زہر لفتیش ہے۔ اسی مقدم میں کھیل لفتیش اڑھا ہوں  
اور ملزمان ٹریس کرنے میں لگن ہوں۔ کٹین حقیقہ سوراخ سے  
ماحول ملزمان دو سرکاری مکانات کے ہم 4 عدد میگزین لوڈ شدہ  
120 عدد کارتوں 7.62 اور 7 حصے کمر لٹیشن شہر نوار 6412 کو عام انڈسٹری

سے شہید کے راہ فرار اختیار کی جو نگر بلڈوں کے مکانڈر  
لقیب اللہ Sizi، طران 6577، عبد القیوم 6532 رفیع اللہ 6493  
صہب اللہ 630 اسماعیل 6508 پر الزام ہے۔ کہ انہوں نے  
ملزمان کو بکڑنے میں نبردنی کا مظاہرہ کے غفلت کو تابی  
کے قتلک ہوئے ہے۔ انڈسٹری بارہ لفتیش جاری ہے  
یہی سہرا بیان ہے میں لیا جو دراستے ہے۔

Attested

whm

C/O Nawrang  
20-11-53

20-11-53  
777 نقاب الزام علیہ

عبد القیوم 6532

الزوم علیہ کو قیوم دیا گیا ہے۔ وہ پر صبر کرتا ہے۔  
جو جو میں نوڈ کر اس گڑبگڑ میں جاتا ہے۔

عبد القیوم  
6-9-7878075-11201-11201

**BEFORE THE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

S.A. No. 495/2014

Abdul Qayoum

Versus

Commandant & others

**REJOINDER**

**Respectfully Sheweth,**

**Preliminary Objections:-**

All the 06 preliminary objection are illegal and incorrect. No reason in support of the same is ever given as to why the appeal is barred by laws/time, appelland has concealed the actual facts, he has come with unclean hands, estopped to file the appeal due to his own conduct, he has no cause of action and appeal is bad for mis & non joinder of necessary parties.

**ON FACTS**

1. Not correct. The para of the reply is without proof regarding unsatisfactory service.
2. In response to this para of reply, it is submitted that nothing against the para of the appeal as brought on surface but the para of the appeal further explained by the respondent. Neither any cowardice or negligence was shown by the appelland but the police party indulged to shift the injured to hospital.
3. Admitted correct to the extent of service of charge sheet and reply thereto. Appelland along with others was quite alert in the discharge of duties but in meager number 5 personal could not combat with large number of miscreants. The recent incident of Army Public School in the heart of the city as well as Bacha Khan University where hundred and thousand police personals, FC and

Army Personal etc, were present but could not overcome the situation.

4. Not correct. The para of the appeal is correct regarding recording of statements in presence of appellant as well as cross examination over the witness(s).
5. As above. But here it would be not out of place to mention that similarly placed FRP Constable, namely Muhammad Ismail was reinstated in service by the respondent.
6. No codal formalities were ever observed. The final show cause notice was not supported by enquiry proceedings/report. The enquiry report it was admitted by the Inquiry Officer in the findings that appellant has never displayed any cowardice.
7. Not correct. The rejection order was not served direct by the appellant but the same was dispatched through postal service which was received by him on 10.04.2014.

**GROUND S:**

- a. Not correct. Such fact of presence on duty was admitted by the respondents in this ground of the reply. He was quite alert and no negligence was shown by him.
- b. Not correct. Reply regarding conduct of enquiry has been given in the preceding paras of facts.
- c. Not correct. Law should have been mentioned in the charge sheet as well as the final show cause notice under which appellant was dealt with.

If cowardice was shown by the deceased police official namely, Sher Nawaz Khan then he should have not awarded with compensation of shaheed package of Rs. 30,00,000 etc.

- d. Not correct. The live examples were the incidents of Army Public School as well as Bacha Khan University.
- e. Not correct. The ground of the appeal is correct.

It is, therefore, most humbly requested that the appeal be accepted as prayed for.

عبدالقيوم  
Appellant

Through

Saadullah Khan Marwat

Dated: .01.2016

Arbab Saif Ul Kamal

Miss Rubina Naz  
Advocate,

### AFFIDAVIT

I, Abdul Qayoum S/o Babar Khan, Appellant, do hereby solemnly affirm and declare that contents of **Rejoinder** are true and correct to the best of my knowledge and belief. While that of the reply of respondents are illegal and incorrect.

I reaffirm the same on oath once again to be true and correct as per the available record.


عبدالقيوم  
D.E P O N E N T

①  
عبدالصوم ( )


پرائگرس رپورٹ

جان عالی!

بجوالہ مقدمہ عدالت نمبر 594 تاریخ 11/4/2013 حرم 302-324-353 PPC  
TATA تھانہ نوزنگ معروض خدمت ہوں کہ جانے وقوعہ کا تفصیلی  
حائزہ لیا۔ بدوران معائنہ ایک عدد سکہ جلدہ خون آلود مل کر حوالہ 1:0  
کیا گیا۔ جانے وقوعہ اور جانے وقوعہ کے آس پاس محل وقوع سے تصاویر  
بھی لیں جو کہ پرائگرس رپورٹ کے ہمراہ لف ہیں۔ گارڈ کمانڈر، کانستبلان  
کے بیانات بھی لیں گئے۔ نقشہ موقع بغرض ملاحظہ پیش خدمت ہے۔




پکیر سڑک روڈ نہایت خالی



پکیر سڑک روڈ نہایت سیرکی ←

→ پختہ سڑک روڈ نہایت مسلم باغ



گارد کمانڈر اسٹال در تہاں

پکیر سڑک بطور پائین لکھ

- D.P.O. Lakho:
- ① Placed the entire strength of P.P. Squad under suspension and proceed against them departmentally.
  - ② Issue charge sheet against SHO Naurang for weak supervision.
  - ③ report action with and come with in due course of time

برقت وقوعہ عمران نامی کانپٹل شہید کانپٹل شہید نواز خان کیساتھ ڈیوٹی پر موجود تھا  
جانے وقوعہ کے چاروں اطراف کھلا علاقہ ہے جس وقت ہم جانے وقوعہ پر  
پہنچے اس وقت عمران کانپٹل بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال میں زیر  
علاج بتلایا گیا۔

P.T.O

Handwritten signature and date: 01/13, 07/14

گارد کمانڈر جوچی سوریل نے لقب اللہ کا بیان لیا جس نے اپنے بیان میں FIR کی رپورٹ کی تائید کی۔ ملزمان کے بارے میں اُسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اور رات کی تندرکی کو جواز بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ سنتر ہی پوزیشن اور گارد کمانڈر اور گارد کے کمرے کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ ہے۔ اگر فائرنگ لیساکھ وہ الرٹ ہو جاتے تو نتیجہ مختلف ہوتا۔ کانٹیلان کے بیانات بھی لگے گئے جنہوں نے گارد کمانڈر کے بیان کی تائید کی۔ ان کے بیانات سے بھی معلوم ہوا کہ کانٹیلان میں سے جب اللہ 630 اور رنج اللہ 6407 جو کہ مسجد (غربی سائڈ) کے ساتھ ملحقہ کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ اگر وہ بروقت الرٹ ہوتے اور ملزمان کے تعاقب کیلئے نکل آتے۔ تو اسی صورت میں بھی ملزمان کو اس طرح آسانی سے فرار ہونا اور سرکاری کلاسکوف پیمانہ آنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن سب کے سب بزدلی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ گارد کمانڈر اور کانٹیلان کے بیانات ہمراہ لف برائے ملاحظہ ہیں۔

جب گارد کمانڈر سے پتہ براری کی گئی۔ کہ کانٹیل عمران جو کہ بوقت وقوعہ جھاگ گیا تھا۔ اُس کا آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ وہ کدھر ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ اُس کی چادر کافی دور جانب شمال خالی اراضیات میں ملی۔ اور وہ مکان مشرقی نثار ولد بھیاں خان سکنتہ مار سلطان محمود میں پناہ لے چکا تھا۔ مشرقی نثار نے بعد ازاں ہمیں مطلع کر دیا۔ کہ اسے کہیں اور نہ ڈھونڈیں۔

جوچی سوریل گارد کمرہ جات کے شمال مشرقی سائڈ پر بالکل ملحقہ ایک بھٹہ خشت ہے جس کے مزدوران سے دریافت کی دریافت پر معلوم ہوا کہ رات کو غلام فرید ولد گل بدن شاہ سکنتہ مصوری بمبیل ڈاکانہ والی جمہ حل تحصیل و ضلع ہون اور پرویز ولد اطلس خان سکنتہ سوریل علاقہ تھانہ فوزنگ کی بھٹہ خشت میں آگ لگنے کی ڈیوٹی تھی۔ دونوں مزدوران سے تفصیلی بیانات لیے جو کہ ہمراہ لف تامل ملاحظہ ہیں۔ ہر دو مزدوران نے اپنے بیانات میں بتلایا کہ ایک ڈیسر (ٹرک نما) گاڑی جو اینٹوں سے لوڈ شدہ تھی جانب شمال روڈ سے آئی اور جوچی کساکھ مور کاٹتے فائرنگ یعنی برسٹ ہوئی۔ برسٹ کے بعد دو یا تین سنگل فائرز بھی ہوئے۔ ہم ڈر کے مارے بھٹہ خشت میں شاہ لی۔ اُس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ بھی رکا۔ اور وقوعہ کے بارے میں باقی پولیس والوں کے زبانی معلوم ہوا۔

اس کے بعد نثار ولد میاں خان سکندر نثار سلطان محمود حسن کے ہاں کانسٹیبل عمران  
بھاگ کر بناہلی تھی، کالھی تفصیلی بیان لیا۔ جس نے اپنے بیان میں بتلایا کہ کل شب  
میں گھوس میں موجود تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر معلوم ہوا کہ  
عمران نامی کانسٹیبل ہے اور وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ مزید جب اسلحہ کے  
بارے میں دریافت کیا۔ کہ اس کے پاس کلاشنکوف سرکاری موجود تھا یا نہیں؟  
تو اس نے بتایا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ نثار کے بھائی عبدالصمد سے بھی تفصیلی  
بیان لیا۔ جو کہ ہمراہ لف قابل ملاحظہ ہے۔

اس کے بعد وقت وقوع کو مد نظر رکھتے ہوئے جانب شمال روڈ پر حملہ ٹھہر  
سے دریافت شروع کی۔ دریافت پر معلوم ہوا کہ سہم ٹھہر خشت واقع شاخ  
تلی خان موڑ سے ڈسٹر (سڑک) لوڈ شدہ یا محمول ڈرائیور معدر شاہ سکندر نامعلوم  
موبائل نمبر 0300-566484، 566484-0331 وقوع سے کچھ لمحات قبل  
طرف مسلم باغ نکلی ہے۔ ڈرائیور مذکورہ سے جب موبائل پر وقوع کے بارے  
میں دریافت کی۔ تو اس نے بتایا کہ وہ شمال کی طرف سے جوگی کیسا موڑ کاٹنے  
طرف مشرق روڈ جوہنی چند گز کے فاصلے پر آگے گیا۔ تو میں نے فائرنگ کی  
آواز سنی۔ اور جس وقت میں موڑ کاٹ رہا تھا تو سنتری بوٹ کے سمت ٹھیک  
کڑ رہا تھا جبکہ دروازے سنتری پوش سے باہر کھڑا تھا۔ اس نے مزید  
یہ بھی فون پر بتلایا کہ پولیس جب بھی مجھے بیان یا کسی قسم کی تعاون کیلئے  
طلب کرنا چاہے تو میں حاضر آنا ہوں گا۔

اس کے بعد عمران کانسٹیبل کے گھر گئے جو اب ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکا تھا۔  
اس نے بتایا کہ ڈسٹر گاڑی آئی اور میں سنتری پوش کیسا منے کھڑا تھا کہ  
کافی تعداد مسلح نصاب پوش تھے غزلی سائڈ سے آجانب ہم پر دھاوا بول کر  
مجھے دھکا دیا۔ اور فائرنگ بھی ہوئی۔ میں بھاگ گیا۔ مجھے سرکاری رائل  
کالھی کچھ تپہ میں چلا اور جب مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میں کس طرح اور کہاں  
تک بھاگ گیا ہوں۔ میں اب ہوشی ہو چکا تھا۔ ہسپتال میں ہوش آیا۔  
مزید یہ بھی کہا کہ میں میرگی (دراپٹے کامرضی ہوں)۔



شہد کابلس اور کابلس عمران کے موبائل فون قبضہ میں لیکر حوالہ 1:5 عنایت البدیع  
تعمانہ ٹورنگ کے گز اور اسے ہدایت دی کہ دونوں موبائل فون بمبرات کا متعلقہ  
حکام سے تفصیلی ڈیٹا حاصل کریں۔

عالیہ! منبر کے مطابق حملہ گارڈ جمعہ گارڈ کمانڈر نے اس وقت تک  
چوکی سے باہر نکلے ہی نہیں جب تک خاموشی چھانٹی ہے۔ تو وہ گارڈ کرہ  
جات سے باہر نکلے۔ جو کہ سنگین بزدلی ہے۔ کابلس عمران جو کہ  
شہد کابلس کیساتھ ڈیوٹی پر موجود تھا۔ وقوعہ کا چشم دید گواہ ہے لیکن  
خان بوجھ کر قسطنٹیئم سے تھارن میں گیا۔ اسے وقوعہ کا مکمل علم ہے۔  
میر علی کے بارے کے مطابق وقوعہ ایک ما دو ملازمان نے کیا ہے۔ اگر بدست  
گرد تنظیم ہوتی تو میرے خیال میں گارڈ کرہ جات میں سونے ہوئے ملازمین  
کو بھی آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے۔ اگر کابلس عمران کو صحیح اشارہ دیکھتے  
کیا جائے تو میرے خیال میں ملازم / ملازمان تک بڑی آسانی سے چھپا  
جاسکتے ہیں۔

مزید یہ بھی آپ صاحبان کو اس میں لانا چاہتا ہوں کہ گارڈ جسمٹر جنک کیا گیا  
معلوم ہوا کہ جسمٹر (مورخہ 20-7-2012) سے تاحال گارڈ / ملازمین کو حملہ  
سپر ویزنری آفیسرز نے صرف دو مرتبہ جنک کئے ہیں۔ جسمٹر کے مطابق  
مورخہ 01-6-2013 کو لائن آفیسر اور مورخہ 9-13-7 کو SHO ٹورنگ  
نے چوکی گارڈ جنک کر کے ملازمین کو چوکی سوہل کو ضروری ہدایات  
دئے ہیں۔ باقی کسی نے بھی چوکی کی طرف آنے کی زحمت گوارا نہیں  
کی ہے۔ جو کہ غفلت اور لاپرواہی ہے۔

سنتی پولیس غیر محفوظ اور لوسدہ۔ کافی دور سے بھی اس کو بڑی  
آسانی سے نشانہ بنا یا جاسکتا ہے۔ رہائشی کرہ جات بھی غیر محفوظ ہیں۔  
اور خستہ حال ہیں۔ آئندہ کسی نقصان سے بچنے کی خاطر اس کی مناسب  
تعمیر / مرمت از حد ضروری ہے۔ جبکہ حالات کے پیش نظر لوزی  
کی تعداد کم ہے۔ مزید اگر بڑھائی جاوے تو کارسہ کار کئے سوہ  
مذہر ہوگا۔

مزدیہ کہ جو کی سوریں میں کل آٹھ ٹکٹ ہروف جملٹ پڑے تھے۔ فوت  
 وقوع شترباں نے کھی قسم کالیٹ ٹکٹ ہروف جملٹ میں لئے تھے۔ اور  
 نہ ہی اس بابت گارد کمانڈر نے اپنے فرائض انجام دئے ہیں۔ گارد کمانڈر  
 بشمول دیگر گارد کانسٹبلان نزدلی، لاہرواسی اور فرائض سے غفلت کی  
 بنیاد پر محکمہ کاروائی کی استدعا کی جاتی ہے۔ ۱:۵۰ بجے لئے فرائض  
 صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ کیونکہ نہ اس نے  
 مویشی فون قدفہ میں لئے تھے۔ نہ ہی موقع کیسا کہ نزدیک حصہ خست  
 کے ملازمین سے اور جہاں سے عمران کانسٹبل برآمد ہوا ہے۔ اس  
 مالک مکان سے بھی بیانات طلب کئے ہیں۔ گارد کانسٹبلان  
 گارد کمانڈر کے مسانات مفروضہ اور اپنی نا اہلی کو قصبانے  
 کہانے مقدمہ کو غلط رخ دینا چاہتے ہیں۔

اصل تنظیم تک مسخ کئے کانسٹبل عمران اور ڈسٹرکٹ اور  
 مقدر شاہ سکھ نامعلوم نمبر ~~0331-5664484~~ -  
 03005664484 د 0331-5664484 سے کوائٹارکٹ کیا جانا از حد ضروری  
 ہے۔ لہذا اس بابت ڈی پی او بکروت اور SP الونیکشن بکروت  
 کو مناسب ہدایات دی جاویں۔

رپورٹ مرتب ہو کر گزارش ہے

*[Signature]*  
 RPEO

6.11.2013

Attested

*[Signature]*  
 17/11/2013

ORDER.

On the night between 4/5-11-2013 the terrorists ambushed Police Post Surkh Pull and opened indiscriminate firing upon Constables Sher Nawaz No. 6412 Constable Imran Khan No. 6577, as a result thereof, Constable Sher Nawaz sustained severe injuries and later expired in the Hospital, while Constable Imran Khan No. 6577 became senseless. The accused/ terrorists also took away Govt: Rifles No. 26099229 alongwith fitted magazine containing 30 rounds and KK-Rifle No. 44815 alongwith bandolier containing three (3) magazines loaded 90 rounds of the same bore from the possession of the above noted officials and case FIR No. 592 dated 05.11.2013 u/s 302/324/353/404 PPC/7-AFA PS Naurang was registered. The Incharge Police Post Surkh Pull and the strength deployed over there badly failed to combat with the accused/ terrorists and displayed and showed great cowardice on their part. hence forth, the following police officials are hereby suspended with immediate effect:-

1. SI/PC Naqibullah FRP.
2. Const: Imran Khan No. 6577/FRP.
3. Const: Abdul Qayyum No. 6532/FRP.
4. Const: Rafiullah No. 6493/FRP.
5. Const: Mohammad Ismail No. 6508/FRP.
6. Const: Habibullah No. 630. ✓

OB No. 5521

Dated. 08/11/2013.

No. 8055-58 Dated Lakki Marwat 11/11 /2013.

Copy to:-

1. SP/ FRP Bannu Range for information.
2. OHC/PO and SRC for necessary action.

SRC/PO

SP  
Superintendent Of Police  
FRP Bannu

1557  
11-11-13  
District Police Officer,  
Lakki Marwat.

100 2635  
211-015  
District Police Officer,  
Lakki Marwat.

Sir,

**IN RESPONSE TO THE CHARGE SHEET**  
**ISSUED VIDE NO: 8049-50 DATED: 11-11-**  
**2013,**

**IT IS SUBMITTED AS BELOW.**

1. That I joined the Police Department in the year 2009 and remained posted at various place, performing my duties with great zeal and devotion to the entire satisfaction of my seniors.
2. That I was posted at "Surkh Pool" and for the last 6/7 months performed my duty to the best of my abilities.
3. That on the night of 04-11-2013, I was present in police post Surkh Pool along with incharge Naqib Ullah and the other colleague constable.
4. That constable Imran and "Late" Sher Nawaz were on Sentry duty. While I along with incharge Naqib Ullah and Constable Rafi Ullah were inside the police post when at about 23:00 Hrs heard discriminate firing shoots, we became alert, rushed out and took our arms and ammunitions.
5. That as soon as we came out, we saw that late Sher Nawaz was injured and started firing in retaliation and self defence but it was pitch darkness and abundance of grasses and bushes were present around the

post, therefore the terrorists accused could not be detected.

6. That I along with constable Rafi Ullah arranged the transport for taking the injured Sher Nawaz to the Hospital and left the only incharge in the police post.
7. The neither I have ex-passed cowardice nor committed any negligence in performance of my duties because the sentry duty was assigned to constable Sher Nawaz and Imran while we were on the next and remained inside the packet, however when heard the firing immediately came out and starting firing towards the terrorists but they could not detected because of the abundance of grasses around the scene of occurrence which became safe shelter for them.
8. That after exchange of firing I and Constable Rafi Ullah arranges for vehicle and brought Sher Nawaz to Civil hospital Serai Naurang and then onward proceeded to DHQ Bannu, where he remained I live for about 10-50 mints.
9. That terrorism has became an open challenge and spreading like a wild fire though out the country, causing human and property losses at the high level but ways could not be sought out to keep pause upon this front.

10. That the police post- packet established at "Surkh Pull" is away from the High Way and situated in an area which is covered with Sugar cane and other crops and as such the terrorists could not be seen at night time unless they reach the target and that is why they succeeded to achieve their goals and escaped.

11. That a criminal case to this effect has also been registered at PS S. Naurang where in it is coming to the surface of investigation, that it was a terrorist attack like other terrorist activities which cannot be controlled being organized and planned crime with high skill with a view to prevail upon the Govt. Keeping in view the prevailing situation of terrorist activities and day to day causalities,

It is requested that I may please be exonerated from the charges and the charge sheet may be filed please.

I wish to appear before your good self for personal hearing.

Your's Faithfully  
F.C Abdul Qayyum Khan No.6532

NB Surkh Pull.

Attested  
SDO Naurang  
20/11/2013

بیان اذکار سے منسلک ہے اور اس کے لئے نوٹنگ

نے بیان کیا کہ عدلیہ نے عدلیہ خان 540 نوٹنگ کے ذریعہ حراسہ میں

قدم 592 ج 5 11/57 75 م 302-324-353 کے ساتھ نوٹنگ دی، 20-11-13  
404.7A.A

جو کہ یہاں زیر تفتیش ہے۔ اسی قدم میں ایکسپلکٹیشن آرہا ہوں  
اور ملزمان ٹریس کرنے میں لگن ہوں۔ لیڈن متفقہ طور پر سے  
ماہلوم ملزمان دو سرکاری مکمل شکوکے ہم 4 عدد میگزین نوٹ شدہ  
120 عدد کارٹون 7.62 پور جس میں کرائس شہر نوٹ 6412 کو عام نوٹ

سے شہید کے راہ فرار اختیار کی۔ چونکہ بلڈون کمانڈر  
لقیب اللہ سی/پی، طران 6577، عبد القیوم 6532 رفیع اللہ 6493  
صہب اللہ 630 اسماعیل 6508 پر الزام ہے۔ انہوں نے  
ملزمان کو بکڑنے میں سہرادی کا مظاہرہ کے غفلت کوتاہی  
کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اندر کے بارہ تفتیش جاری ہے  
یہی سہرا بیان ہے جس کا جو درجہ ہے۔

Attested

whm  
C/O Nawrang  
20-11-13

Signature  
20-11-13  
عبد القیوم  
6532

الزعم علیہ کو قیوم دیا گیا ہے گواہ پر صبر کیا  
جو جو سہرا نوٹ کریں انہیں جاننا ہے۔


عبد القیوم  
NIC 11201-7878075-9

①  
معدله الصوم


پیراگرس رپورٹ

جناب عالی!

بجوالہ مقدمہ عدلت نمبر 594 تاریخ 11/4/2013 حرم 302-324-353 PPC  
TATA تھانہ نوزنگ معروض خدمت ہوں کہ جانے وقوعہ کا تفصیلی  
حائزہ لیا۔ بدوران معائنہ ایک عدد سکہ جلدہ خون آلود مل کر حوالہ 1:0  
کیا گیا۔ جانے وقوعہ اور جانے وقوعہ کے آس پاس محل وقوع سے تصاویر  
بھی لیں جو کہ پیراگرس رپورٹ کے ہمراہ لف ہیں۔ گارڈ کمانڈر، کانسلان  
کے بیانات بھی لیں گئے۔ نقشہ موقع بغرض ملاحظہ پیش خدمت ہے۔




کچھ شکر روزہ نواز خان



کچھ شکر روزہ سہری ←

→ پختہ شکر روزہ مسلم باغ



کچھ شکر لطف نواز خان

D.P.O. Lakhvi

- Placed the entire strength of P.P. Suptd under suspension and proceed against them departmentally.
- Issue charge sheet against SHO Naurang for weak supervision.
- rept actn with and come with imd course of time

برقت وقوعہ عمران نامی کانپٹل شہید کاپٹل شہید نواز خان کیساتھ ڈیوٹی پر موجود تھا  
جانے وقوعہ کے چاروں اطراف کھلا علاقہ ہے۔ جس وقت ہم جانے وقوعہ پر  
پہنچے اس وقت عمران کانپٹل بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال میں زیر  
علاج بتلایا گیا۔  
21/4

P.T.O

DIG/R  
07/14



گارد کمانڈر چوکی سوریل ای نقیب اللہ کا بیان لیا جس نے اپنے بیان میں FIR کی رپورٹ کی تائید کی۔ ملزمان کے بارے میں اُسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اور رات کی تاریکی کو جواز بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ سنسٹر ہی پوچش اور گارد کمانڈر اور گارد کے کمرے کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ ہے۔ اگر فائرنگ کے ساتھ وہ الٹ ہو جاتے تو نتیجہ مختلف ہوتا۔ کانٹیلان کے بیانات بھی لے گئے جنہوں نے گارد کمانڈر کے بیان کی تائید کی۔ ان کے بیانات سے بھی معلوم ہوا کہ کانٹیلان میں سے جب اللہ 630 اور رفیع اللہ 6407 جو کہ مسجد (غربی سائڈ) کے ساتھ ملحقہ کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ اگر وہ بروقت الٹ ہوتے اور ملزمان کے تعاقب کیلئے نکل آتے۔ تو اسی صورت میں بھی ملزمان کو اس طرح آسانی سے فرار ہونا اور سرکاری کلاسنگوف لیجانا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن سب کے سب نزدیکی کے متعلق ہوئے ہیں۔ گارد کمانڈر اور کانٹیلان کے بیانات ہمراہ لے کر ملاحظہ ہیں۔

جب گارد کمانڈر سے پتہ براری کی گئی۔ کہ کانسٹیبل عمران جو کہ بوقت وقوعہ مجاگ گیا تھا۔ اُس کا آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ وہ گدھر ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ اُس کی چادر کافی دور جانب شمال خالی اراضیات میں ملی۔ اور وہ مکان سُستی نثار ولد بیاں خان سکنہ نثار سلطان محمود میں پناہ لے چکا تھا۔ سُستی نثار نے بعد ازاں ہمیں مطلع کر دیا۔ کہ اسے کہیں اور نہ ڈھونڈیں۔

یہ چوکی سوریل گارد کمرہ جات کے شمال شرقی سائڈ پر بالکل ملحقہ ایک ٹھکانہ ہے جس کے مزدوران سے دریافت کی دریافت پر معلوم ہوا کہ رات کو غلام فرید ولد گل بدن شاہ سکنہ منصور علی محمد خیل ڈاکخانہ والی حمہ خیل تحصیل و ضلع ہونہ اور بیرون ولد اظہار خان سکنہ سوریل علاقہ تھانہ فوننگ کی ٹھکانہ خشت میں آگ ڈالنے کی ڈیوٹی تھی۔ دونوں مزدوران سے تفصیلی بیانات لیے جو کہ ہمراہ لف قابل ملاحظہ ہیں۔ ہر دو مزدوران نے اپنے بیانات میں بتلایا کہ ایک ڈیسر (ٹرک نما) گاڑی جو اینٹوں سے لوڈ شدہ تھی جانب شمال روڈ سے آئی اور چوکی کسٹھ مور کاٹے فائرنگ یعنی ہر سٹ ہوئی۔ ہر سٹ کے بعد دو یا تین سنگل فائر مزید بھی ہوئے۔ ہم ڈر کے بارے ٹھکانہ خشت میں شاہ لی۔ اُس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ بھی رکا، اور وقوعہ کے بارے میں باقی پولیس والوں کے زبانی معلوم ہوا۔

اس کے بعد نثار ولد میاں خان سکندر سلطان محمود جس کے ہاں کاپیس عمران  
بھاگ کر مینا ملی تھی، کا بھی تفصیلی بیان لیا۔ جس نے اپنے بیان میں بتلایا کہ کل  
میں گھر میں موجود تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر معلوم ہوا کہ  
عمران نامی کاپیس ہے اور وہ کچھ لوگوں کے قابل نہیں تھا۔ مزید جب اسلحہ کے  
بارے میں دریافت کیا کہ اس کے پاس کلاشنکوف سرکاری موجود تھا یا نہیں؟  
تو اس نے بتایا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ نثار کے بھائی عبدالصمد سے بھی تفصیلی  
بیان لیا۔ جو کہ ہمراہ لف قابل ملاحظہ ہے۔

اس کے بعد وقت وقوع کو مد نظر رکھتے ہوئے جانب شمال روڈ پر حملہ بھٹہ نشت  
سے دریافت شروع کی۔ دریافت پر معلوم ہوا کہ سہم بھٹہ نشت واقع شاخ  
تلی خان موڑ سے ڈسٹرکٹ (مرک) لوڈ شدہ یا تحویل ڈرا نیور مقدر شاہ سکندر نامعلوم  
میرپائل نمبر 0300-566484، 566484-0331 وقوع سے کچھ لمحات قبل  
بطرف مسلم باغ نکلی ہے۔ ڈرا نیور مذکورہ سے جب موپائل روڈ وقوع کے بارے  
میں دریافت کی۔ تو اس نے بتایا کہ وہ شمال کی طرف سے جوگی کیا تھو موڑ کا  
بطرف مشرق روڈ جوہنی چند گز کے فاصلے پر آگے گیا۔ تو میں نے فائرنگ کی  
آواز سنی۔ اور جس وقت میں موڑ کاٹ رہا تھا تو سنتری بوٹ کے بستے ٹھیک  
گزر رہا تھا جبکہ دروازے سنتری پویش سے باہر کھڑا تھا۔ اس نے مزید  
یہ بھی فون پر بتلایا کہ پولس جب بھی مجھے بیان یا کسی قسم کی تعاون کیلئے  
طلب کرنا چاہے تو میں حاضر آتا ہوں گا۔

اس کے بعد عمران کاپیس کے گھر گئے جو اب ہسپتال سے ڈسپنچر ہو چکا تھا۔  
اس نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ گاڑی آئی اور میں سنتری پویش کیا منے کھڑا تھا۔ کہ  
کافی تعداد مسلح نصاب پویش تھے غزنی سائیڈ سے آجناک ہم پر دھاوا بول کر  
مجھے دھکا دیا۔ اور فائرنگ بھی ہوئی۔ میں بھاگ گیا۔ مجھے سرکاری رائل  
کا بھی کچھ تپہ نہیں چلا اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میں کس طرح اور کہاں  
تک بھاگ گیا ہوں۔ میں اب ہوشی ہو چکا تھا۔ ہسپتال میں ہوش آیا۔  
مزید یہ بھی کہا کہ میں برگی (دور پڑنے کا مریض ہوں)۔

شہد کانسٹبل اور کانسٹبل عمران کے موبائل فون قبضہ میں لیکر حوالہ 1:5 عنایت البدین  
 محمدانہ ٹورنگ کے گزرتے اور اُسے ہدایت دی کہ دونوں موبائل فون عہدات کا متعلقہ  
 حکام سے تفصیلی ڈیٹا حاصل کریں۔

عالیاء! میرے والدین کے مطابق حملہ گارد جمعہ گارد کمانڈر نے اُس وقت تک  
 چونکی سے باہر نکلے ہی نہیں جب مکمل خاموشی چھا گئی ہے تو وہ گارد کمرہ  
 حات سے باہر نکلے اس جو کہ سنگین سزدلی ہے۔ کانسٹبل عمران جو کہ  
 شہد کانسٹبل کیساتھ ڈیوٹی پر موجود تھا۔ وقوعہ کا چشم دید گواہ کے بہن  
 خانہ بوجھ کر نقشہ نم سے تعاون نہیں کرتا۔ اُسے وقوعہ کا مکمل علم ہے۔  
 میری لڑائی کے مطابق وقوعہ ایک ما دو ملازمان نے کیا ہے۔ اگر دلہنت  
 گرد تنظیم نہرتی تو میرے خیال میں گارد کمرہ حات میں سوتے ہوئے ملازمین  
 کو بھی آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے۔ اگر کانسٹبل عمران کو صحیح انداز گنٹ  
 کیا جائے تو میرے خیال میں ملازم / ملازمان تک بڑی آسانی سے چھپا  
 بیچ سکتے ہیں۔


مزید یہ بھی آپ صاحبان کو اس میں لانا چاہتا ہوں کہ گارد حیدر چمک کیا گیا  
 معلوم ہوا کہ حیدر (مورخہ 20-7-2012) سے تاحال گارد / ملازمین کو حملہ  
 سپروٹیزری آفسرز نے صرف دو مرتبہ چمک کئے ہیں۔ حیدر کے مطابق  
 مورخہ 01-6-2013 کو لائن آفسر اور مورخہ 9-13-7 کو SHO ٹورنگ  
 نے چونکی گارد چمک کر کے ملازمین کو اس چونکی سوزیل کو ضروری ہدایات  
 دئے ہیں۔ باقی کسی نے بھی چونکی کی طرف آنے کی زحمت گوارا نہیں  
 کی ہے۔ جو کہ غفلت اور لاپرواہی ہے۔

سندھ پولیس غیر محفوظ اور نوسدہ کا کافی دور سے بھی اس کو بڑی  
 آسانی سے نشانہ بنایا جاسکتا ہے۔ رہائشی کمرہ حات بھی غیر محفوظ ہیں۔  
 اور خستہ حال ہیں۔ آئندہ کسی نقصان سے بچنے کی خاطر اس کی مناسب  
 ترمیم / مرمت از حد ضروری ہے۔ جبکہ حالات کے پیش نظر لوزری  
 کی تعداد کم ہے۔ مزید اگر بڑھائی جاوے تو کارسز کار کئے سو  
 مذکورہ گا۔

مزدیہ کی جو کئی سواریں میں کل آٹھ ٹیبلٹ ہروف جیکٹ پڑے تھے۔ بوقت  
 وقوع شتربیاں نے کچھ قسم کا ٹیبلٹ ہروف جیکٹ میں سے لے لیا۔ اور  
 نہ ہی اس بابت گارڈ کمانڈر نے اپنے فرائض انجام دیئے ہیں۔ گارڈ کمانڈر  
 بیٹھوں دیگر گارڈ کانسٹبلان نزدلی، لاسرواسی اور فرائض سے غفلت کی  
 بنیاد پر محکمہ کارروائی کی استدعا کی جاتی ہے۔ 0:10 بجے لے لیا فرائض  
 صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ کیونکہ نہ اس نے  
 موبائل فون قبضہ میں لئے تھے۔ نہ ہی موقع کیسا کو نزدیک حصہ خست  
 کے ملازمین سے اور جہاں سے عمران کانسٹبل برآمد ہوا ہے۔ اس  
 مالک مکان سے بھی بیانات طلب کیئے ہیں۔ گارڈ کانسٹبلان  
 گارڈ کمانڈر کے بیانات مفروضہ اور اپنی ما اہلی کو قصبانے  
 کئی مقدمہ کو غلط راج دینا چاہتے ہیں۔

اصل ملزم تاک سننے کئی کانسٹبل عمران اور ڈسٹرکٹ انچارج  
 مقدر شاہ سکے نامعلوم نمبر 0331-5664484 -  
 03005664484 د 0331-5664484 سے کوائٹار گیت کیا جانا از حد ضروری  
 ہے۔ لہذا اس بابت ڈی جی او بکروت اور SP انوشکیش بکروت  
 کو مناسب ہدایات دی جاویں۔

رپورٹ مرتب ہو کر گزارش ہے

  
 RPEO

6.11.2013

Attested

17/11/2013


ORDER.

On the night between 4/5-11-2013 the terrorists ambushed Police Post Surkh Pull and opened indiscriminate firing upon Constables Sher Nawaz No. 6412 Constable Imran Khan No. 6577, as a result thereof, Constable Sher Nawaz sustained severe injuries and later expired in the Hospital, while Constable Imran Khan No. 6577 became senseless. The accused/ terrorists also took away Govt: Rifles No. 26099229 alongwith fitted magazine containing 30 rounds and KK-Rifle No. 44815 alongwith bandolier containing three (3) magazines loaded 90 rounds of the same bore from the possession of the above noted officials and case FIR No. 592 dated 05.11.2013 u/s 302/324/353/404 PPC/7-AIA PS Naurang was registered. The Incharge Police Post Surkh Pull and the strength deployed over there badly failed to combat with the accused/ terrorists and displayed and showed great cowardice on their part. hence forth, the following police officials are hereby suspended with immediate effect:-

1. SI/PC Naqibullah FRP.
2. Const: Imran Khan No. 6577/FRP.
3. Const: Abdul Qayyum No. 6532/FRP.
4. Const: Rafiullah No. 6493/FRP.
5. Const: Mohammad Ismail No. 6508/FRP.
6. Const: Habibullah No. 630. ✓

OB No. 5521

Dated. 08/11/2013.

  
District Police Officer,  
Lakki Marwat.


No. 8055-58 Dated Lakki Marwat 11/11 /2013.

Copy to:-

1. SP/ FRP Bannu Range for information.
2. OHC/PO and SRC for necessary action.

SRC/PO

100 2635  
date 8-11-08  
District Police Officer,  
Lakki Marwat.

  
Superintendent of Police  
FRP Bannu

Sir,

**IN RESPONSE TO THE CHARGE SHEET  
ISSUED VIDE NO: 8049-50 DATED: 11-11-  
2013.**

**IT IS SUBMITTED AS BELOW.**

1. That I joined the Police Department in the year 2009 and remained posted at various place, performing my duties with great zeal and devotion to the entire satisfaction of my seniors.
2. That I was posted at "Surkh Pool" and for the last 6/7 months performed my duty to the best of my abilities.
3. That on the night of 04-11-2013, I was present in police post Surkh Pool along with incharge Naqib Ullah and the other colleague constable.
4. That constable Imran and "Late" Sher Nawaz were on Sentry duty. While I along with incharge Naqib Ullah and Constable Rafi Ullah were inside the police post when at about 23:00 Hrs heard discriminate firing shoots, we became alert, rushed out and took our arms and ammunitions.
5. That as soon as we came out, we saw that late Sher Nawaz was injured and started firing in retaliation and self defence but it was pitch darkness and abundance of grasses and bushes were present around the

(16)

post, therefore the terrorists accused could not be detected.

6. That I along with constable Rafi Ullah arranged the transport for taking the injured Sher Nawaz to the Hospital and left the only incharge in the police post.
7. The neither I have ex-passed cowardice nor committed any negligence in performance of my duties because the sentry duty was assigned to constable Sher Nawaz and Imran while we were on the next and remained inside the packet, however when heard the firing immediately came out and starting firing towards the terrorists but they could not detected because of the abundance of grasses around the scene of occurrence which became safe shelter for them.
8. That after exchange of firing I and Constable Rafi Ullah arranges for vehicle and brought Sher Nawaz to Civil hospital Serai Naurang and then onward proceeded to DHQ Bannu, where he remained I live for about 10-50 mints.
9. That terrorism has become an open challenge and spreading like a wild fire though out the country, causing human and property losses at the high level but ways could not be sought out to keep pause upon this front.

10. That the police post- packet established at "Surkh Pull" is away from the High Way and situated in an area which is covered with Sugar cane and other crops and as such the terrorists could not be seen at night time unless they reach the target and that is why they succeeded to achieve their goals and escaped.

11. That a criminal case to this effect has also been registered at PS S. Naurang where in it is coming to the surface of investigation, that it was a terrorist attack like other terrorist activities which cannot be controlled being organized and planned crime with high skill with a view to prevail upon the Govt. Keeping in view the prevailing situation of terrorist activities and day to day causalities,

It is requested that I may please be exonerated from the charges and the charge sheet may be filed please.

I wish to appear before your good self for personal hearing.

Your's Faithfully

*عبد القیوم خان*  
F.C Abdul Qayyum Khan No.6532

NB Surkh Pull.

Attested  
*[Signature]*  
SDO Naurang  
20/11/2013



سان اڈان سے پہلے انٹرنیٹ پر لائن

نے سان کیا کہ عدم تحفظ سان SHD نوٹس کے قریبی حراسہ پر

مقدمہ 3592/2011 75/11 302-324-353 کے ساتھ نوٹس کو 21/11/11  
404-7AIA

جو کہ یہاں زیر تفتیش ہے۔ اسی مقدمہ میں ایکٹس لکھیں اور رہا ہوا  
آرڈر سان ٹریس کرنے میں لگن ہوں۔ کٹڈن مقدمہ سوریہ

ماحولیہ ملزمان دو سرکاری مکمل شکوکے ہم 4 عدد میگزین نوٹس

120 عدد کارٹوں 7.62 ہور تھیں کہ ریش شہنواز 6412 کو عام نوٹس

سے شہید کے راہ فرار اختیار کی۔ چونکہ بلڈوں کے حاکم

لقیب اللہ S/P، عمران 6577، عبد القیوم 6532 رفیع اللہ 6493

صہب اللہ 630 اسماعیل 6508 پر الزام ہے۔ کہ انہوں نے

ملزمان کو بکڑنے میں سرمدی کا وظاہرہ کے عقد کو تابی

کے فریبک ہوئے ہے۔ آئندہ ایک بارہ تفتیش جاری ہے

اسی صہب سان ہے جس کا جو دراستے ہے

Attested

Signature

C/O Nawrang

20-11-11

Signature  
20-11-11

عبد القیوم 6532

انہوں نے جو کو جو رقم لیا، اس کو وہ پر صہب لکھ  
جو کہ میں نوٹس میں لکھنا چاہتا ہے

عبد القیوم